



5181CH04

Chapter

4

انسانی نشوونما

اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ

- نشوونما کے معنی اور عمل کا بیان
- انسان کی نشوونما پر تو اثرات، ماحول اور سیاق کی تشریح
- نشوونما کی منزل کا تعین اور مختلف ادوار جیسے طفولیت، بچپن کا ابتدائی دور، نغفوانِ شباب، جوانی اور بڑھاپا وغیرہ کی خصوصیات کا بیان
- خود اپنی نشوونما اور ذاتی تجربے کا بیان

مشمولات

کلیدی اصطلاحات
خلاصہ
نظر ثانی کے لئے سوالات
پروجکٹ کا تصور

تعارف
نشوونما کے معنی
نشوونما حیات کے تناظر میں: بڑھوتری، ترقی، بتدریج تبدیلی
نشوونما کا آخری یا انتہائی دور (باکس: 4.1)
نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عناصر
انسانی نشوونما کی منازل یا نشوونما کے مراحل
نشوونما کے مختلف ادوار پر ایک نظر
پیدائش سے پہلے یعنی دورانِ حمل

”میری خواہش ہے کہ میں ایسی راہ پر سفر کروں جو ایک بچے کے ذہن سے ہو کر گزرتی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، جہاں پیغام بر ایسے شہنشاہوں کے لئے سفر کرتے ہوں جن کی تاریخ کوئی نہیں ہے، جہاں منطق کے اصول پتنگ کی طرح اڑ جائیں اور سچ ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد ہو۔“
رابندر ناتھ ٹیگور

طفولیت
بچپن
(بچے کی جنس کا اس کی نشوونما میں رول) (باکس: 4.2)
نغفوانِ شباب کے چیلنج
پختہ عمر اور بڑھاپا

تعارف

اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی زندگی میں پیدائش سے ہی مختلف طرح کی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عمل لگاتار جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر کے مخصوص ادوار میں بچہ بڑھتا اور پھلتا پھولتا ہے، بات چیت کرنی سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، لکھنا پڑھنا اور صحیح اور غلط کی پہچان کرنے لگتا ہے اور اپنا خاندان بناتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ حالانکہ تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے نکات ہیں جن میں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ تقریباً سال بھر کی عمر میں چلنا سیکھتے ہیں، دو سال کی عمر میں بولنا یا بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، بچپن سے ہی دوست بنانا اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں، جوانی کا دور شروع ہوتے ہی کام کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور مستقبل کا تانا بانا بننے لگتے ہیں۔ اور دھیرے دھیرے عمر بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ پیدائش سے لے کر موت تک ایک لگاتار تبدیلی کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ سبق آپ کو انسان کی زندگی کے مختلف ادوار میں ہونے والی تمام تبدیلیوں سے متعارف کرائے گا۔ اسی وقت سے جب سے انسانی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، تب سے لے کر مختلف مراحل میں مختلف تبدیلیاں کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ قبل از پیدائش، دورِ طفلی، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ آپ کا یہ سفر خود کو سمجھنے اور خود دریافت کا سفر ہوگا اور جو مستقبل کی ترقی میں آپ کے لئے مددگار ہوگا۔ انسانی نشوونما کا مطالعہ آپ کو دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں بھی معاون ہوگا۔

بناتے ہیں۔ یاد رکھنیے کہ یہ تبدیلیاں کسی انسان کی زندگی کے صرف ایک ہی پہلو سے متعلق نہیں ہوتیں وہ انسان کی پوری ذات میں سمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ نشوونما ترقی و تبدیلی کا ایسا عمل ہے جو درجہ بدرجہ نہایت مربوط انداز میں انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے اور اس کی پیدائش سے بھی پہلے یعنی جب وہ ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے اور یہ تبدیلیاں اکثر اوقات طے شدہ ادوار میں رونما ہوتی ہیں۔ تبدیلی و ترقی کا یہ عمل فروغ اور تنزل دونوں صورتوں میں ہوتا ہے جیسا کہ بڑھاپے میں دیکھا جاتا ہے۔

نشوونما کے معنی (Meaning of Development)

جب ہم نشوونما کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں جسمانی تبدیلیوں کا خیال آتا ہے کیوں کہ انسان کے جسم میں باہری طور سے ہونے والی تبدیلیاں بہ آسانی دیکھی جاسکتی ہیں، گھر میں اپنے سے چھوٹے بچوں میں، اسکول کے ساتھیوں میں اور خاندان میں والدین اور بزرگوں کو دیکھ کر بہ آسانی ان تبدیلیوں کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہم صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بدلتے بلکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی بدلتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور سماج میں ہم نئے نئے رشتے بھی

نشوونما پوری زندگی جاری رہتا ہے یعنی یہ عمر کے ہر حصے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر اس کے بڑھاپے تک، اس عمل میں انسان حاصل بھی کرتا ہے اور کھوتا بھی ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی متاثر ہوتی ہے (ایک پہلو سے ہونے والی تبدیلیاں دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں)

انسانی نشوونما کے مختلف پہلو، جیسے حیاتیاتی، وقوفی، سماجی اور جذباتی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کے ہر دور میں اثر انداز ہوتے ہیں۔

نشوونما ہر سمت میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ انسانی زندگی کے اطراف میں پھیلا ہوتا ہے۔ کسی ایک پہلو پر ہونے والی تبدیلیاں زیادہ ہو سکتی ہیں تو دوسری طرف یہ تبدیلیاں کم بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ عمر کا انسان اپنے تجربے کی بنیاد پر دانشمندانہ فیصلے کرتا ہے۔ لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ کاموں میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے جیسے دوڑ بھاگ کا کام وہ نہیں کر پاتا۔

انسانی نشوونما بالکل پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے مطلب یہ کہ انسان کی نفسیات میں تبدیلی کا پہلو مضمر ہوتا ہے حالانکہ یہ پہلو تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر دور میں انسان کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے۔

انسانی نشوونما کے عمل میں تاریخ کا بھی اہم رول ہے۔ مثلاً 20 سال کی عمر کے وہ لوگ جو ہندوستان کی جنگ آزادی کے دور میں تھے، آج کے بیس سالہ عمر والوں سے یکسر مختلف ہوں گے۔ آج کے طالب علم کا اپنے کیریئر کے تئیں احساس 50 سال پہلے کے بچوں سے بالکل مختلف ہوگا۔

نشوونما مختلف النوع ہے۔ مختلف موضوع جیسے سائیکولوجی،

1. نشوونما بہت سے عناصر کا ملا جلا ردعمل ہوتا ہے اس میں اس کے وقوفی حیاتیاتی (Biological) اور سماجی۔ جذباتی عناصر کا نمایاں رول ہوتا ہے۔ جو تبدیلیاں ماں باپ سے، یا اپنے خاندان سے انسان حاصل کرتا ہے ان میں قدر، وزن، دل، دماغ اور پھیپھڑوں کی نشوونما، وغیرہ شامل ہیں اور یہ تمام چیزیں حیاتیاتی اعمال پر منحصر ہوتی ہیں۔

2. ارتقائی عمل میں وقوفی اعمال کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور یہ انسان کے سوچنے سمجھنے کے انداز، احساس، توجہ، پر منحصر ہوتا ہے اور ہمارے بات چیت، مسائل کو سلجھانے کے انداز اور ہمارے کام کرنے کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ سماجی و جذباتی اعمال انسان کے دوسرے

3. لوگوں کے ساتھ میل جول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی جذباتی تبدیلیوں اور اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بچے کا ماں کی آغوش میں سمٹ جانا، ایک چھوٹی لڑکی کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے تئیں پیار و محبت، نوجوانی میں کسی کا ساتھ چھوٹ جانے کا غم، استاد کے ذریعہ بچوں کا دکھ بانٹنا اور دو بڑی عمر کے لوگوں کا آپس میں دکھ درد بانٹنا۔ یہ سب ہی سماجی جذباتی اعمال کا اظہار ہیں اور انسان کے نشوونما کے عمل میں بہت بڑے حصہ دار بھی ہیں۔

4. حالاں کہ آپ اس کتاب کے مختلف ابواب میں انسانی نشوونما کے مختلف عمل ان کے عوامل کے بارے میں پڑھیں گے لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حیاتیاتی، وقوفی اور سماجی، جذباتی عمل انسانی نشوونما میں مشترک رول ادا کرتے ہیں اور انسان کی ذات کو ایک مربوط اکائی کی شکل میں پروان چڑھاتے ہیں۔

حیطہ حیات کے تناظر میں

(Life-Span Perspective on Development)

حیطہ حیات کے تناظر (LSP) میں انسانی زندگی کا مطالعہ مندرجہ ذیل مفروضوں پر مشتمل ہے:

پھر کوئی اچھی نوکری مل جانا۔ مقصد یہ کہ لوگ حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

سوشیالوجی اور دماغی نشوونما سے متعلق سائنس نیورولوجی وغیرہ سب ہی موضوع انسانی نشوونما کی کہانی اپنے انداز سے کہتے ہیں۔

نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عناصر

(Factors Influencing Development)

کیا آپ نے اپنی کلاس میں ملاحظہ کیا ہے کہ آپ میں سے کچھ سانولے ہیں جبکہ کچھ گورے۔ آپ کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی مختلف ہے۔ آپ میں سے کچھ لمبے ہیں اور کچھ چھوٹے قد کے۔ کچھ بچے خاموش اور رنجیدہ رہتے ہیں جبکہ کچھ ہمیشہ خوش و خرم اور چمکتے رہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ، قابلیت، صلاحیت، یادداشت اور دوسرے نفسیاتی پہلوؤں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس

7. کوئی بھی انسان کسی طرح کی بات چیت کرتا ہے یہ اس کی خاندانی عادات و اطوار پر منحصر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سماجی، تاریخی و تہذیبی حالات میں انسان کے برتاؤ کو متاثر کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام واقعات و حالات یکساں نہیں ہوتے مثلاً والدین میں سے کسی ایک کا انتقال، کوئی حادثہ یا پھر کوئی قدرتی آفت یعنی زلزلے وغیرہ کا انسان کی زندگی پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے کوئی انعام جیتنا یا

4.1 نمو (Growth)، نشوونما، پختگی / بلوغ اور ارتقاء

ہیں۔ 8 ماہ کی عمر میں سہارے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سال بھر کی عمر تک چلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بار جسمانی ڈھانچہ پوری طرح نشوونما پا لے تو ان سب عادتوں میں پختگی اور پکا پن تھوڑی سی ٹریننگ سے لایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر بچہ جسمانی طور سے پختہ نہیں ہوگا تو کسی بھی طرح کی ٹریننگ اس کے برتاؤ میں تبدیلی نہیں لاسکتی۔ یہ تبدیلیاں انسانی جسم میں اندرونی طور سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ جو اندرونی طور سے ان عناصر پر منحصر ہوتی ہیں جو ہم اپنے والدین سے قدرتی طور سے حاصل کرتے ہیں۔ ارتقاء (Evolution) مخصوص تبدیلیاں ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو قدرت نے نوع انسانی کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور جس کے ذریعہ انسان زندہ رہتا ہے نیز افزائش نسل بھی کرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں نسل در نسل چلتی ہیں اور یہ بہت دھیمی رفتار سے رونما ہوتی ہیں۔ جیسے کہ انسان کی موجودہ شکل و صورت کا آغاز 14 ملین سال پہلے ہوا تھا، بندر کی شکل میں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 'Homo sapiens' بنی نوع یا اشرف المخلوقات صرف 50 ہزار سال پہلے شروع ہوا۔

نمو (Growth) جن تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ بہ آسانی ناپی جا سکتی ہیں۔ مثلاً قد میں اضافہ، وزن میں تبدیلی وغیرہ۔ نشوونما ایسا عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی جاری رہتا ہے۔ اس عمل کے تحت ہونے والی تبدیلیاں ایک طے شدہ سمت میں ہوتی ہیں اور اگلے و پچھلے حالات سے متعلق یا جڑی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیماری کی وجہ سے ہونے والی کوئی عارضی تبدیلی نشوونما کا حصہ نہیں ہوتی۔ اس عمل کے تحت ہونے والی تبدیلیاں یکساں بھی نہیں ہوتیں۔ اس طرح انسان کی جسمانی تبدیلیاں قد اور وزن میں اضافہ، بچپن سے جوانی کے دور میں داخلہ، اس کی وضع قطع میں تبدیلی (دودھ کے دانت ٹوٹنا) یا خدوخال میں تبدیلی بالکل مختلف طرح سے ہوتی ہے اور اس کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ نشوونما کے اضافہ میں نمو ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ پختگی یا بلوغ ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایک سلسلہ وار ترتیب میں رونما ہوتی ہیں اور ان پیشینگی عناصر پر منحصر ہوتی ہیں جو ہمارے نشوونما میں یکساں طور پر مددگار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے عام طور سے 7 ماہ کی عمر تک بنا سہارے بیٹھنا شروع کرتے

نشوونما کا خاکہ تیار کرتے ہیں لیکن یہ تمام Genes حالات اور ماحول کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں نہ کہ آزادانہ طور پر۔ اس طرح آپ میں سے ہر ایک، ایک مخصوص شخصیت کا مالک ہو جاتا ہے۔


ماحولیاتی اثرات کیا ہیں؟ اور یہ کس طرح نشوونما کو متاثر کرتے ہیں؟ ایک ایسے بچے کے بارے میں سوچئے جس کے Genes اسے ایسے ماحول میں جانے سے روکتے ہیں جو آزاد اور جہاں زیادہ میل جول ہو۔ اس ماحول کے اثر سے بچہ خود بخود اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال ایسے شخص کی جو اپنے تناسلی ورثہ سے پستہ قد تھے۔ اس کو خواہ کتنا ہی قوت بخش ماحول ملے وہ لمبے قد کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ Genes ایک حد مقرر کرتے ہیں اور انسان کا ماحول اس حد کے اندر ہی نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اب تک آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ والدین بچے کی نشوونما کے لیے Genes مہیا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے لئے ماحول بنانے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ سینڈرا اسکار (1992) کا ماننا ہے کہ والدین اپنے بچے کو جو ماحول مہیا کرتے ہیں، وہ بنیادی طور سے خود ان کے اپنے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر والدین باصلاحیت اور قابل ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی کتابیں مہیا کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بچے بھی قابل اور باصلاحیت بنتے ہیں۔ بچے کا تناسلی ورثہ جیسا کہ معاون و مددگار ہونا اور ذمہ دار ہونا اس بات پر منحہ ہوتا ہے کہ والدین اور استاد بھی ان بچوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں بہ نسبت ان بچوں کے جو ذمہ دار اور لائق نہیں ہوتے۔ ساتھ ساتھ ہی یہ بچے اپنے Genotype کے حساب سے اپنے لیے موزوں ماحول چن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے بچے جنہیں علم موسیقی یا کھیل کود میں دلچسپی ورثہ میں ملی ہے، اپنے لیے ایسا ماحول منتخب کر لیتے ہیں جو ان کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ ماحول کے ساتھ یہ میل جول تبدیل ہوتا

سب تفریق کے باوجود ہم سب انسان ہیں، بنی نوع ہیں، یا اشرف المخلوقات ہیں۔ ایسی کیا بات ہے جو ہمیں ایک جیسا رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے؟ جواب ہمارے ماحول اور خاندانی عناصر میں پوشیدہ ہے۔

آپ نے تیسرے سبق میں پڑھا ہے کہ کس طرح جانداروں میں خاندانی یا پشتینی خصوصیات، نسل بہ نسل منتقل ہوتی ہیں۔ ہم اپنے والدین سے کچھ تناسلی قوانین ورثے میں حاصل کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے ہر خلیے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام قوانین ایک بات میں یکساں ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ انسانی جسم سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ انسانی تناسلی قانون کا ہی حصہ ہے کہ ایک پختہ انڈا ایک انسانی بچے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، ہاتھی کا یا چڑیا کا یا چوہے کا بچہ نہیں بنتا۔

تناسلی قوانین یا عناصر کی ترسیل ایک نہایت پیچیدہ عمل ہے۔ بہت سی عادتیں و خصائل جو ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں، بہت سارے قوانین عناصر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 80,000 یا اس سے بھی زیادہ جینس (Genes) انسان کے برتاؤ اور عادات و خصائل کو طے کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان تمام خصوصیات یا عادتوں کے مالک ہوں جو ہم نے اپنے تناسلی ڈھانچے سے حاصل کی ہیں۔ درحقیقت جو کچھ بھی انسان اپنے جینس (Genes) سے حاصل کرتا ہے اس کو Genotype کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی تناسلی وراثت۔ حالانکہ یہ ساری وراثت ہمارے رویوں میں شامل نہیں ہوتی۔ Phenotype ایسا عمل ہے جس سے انسان کی تناسلی وراثت اور اس پر مشتمل اس کی عادتوں اور خصلتوں کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ Phenotype میں انسان کے جسمانی پہلو جیسے کہ قد، وزن، بالوں اور آنکھوں کا رنگ اور بہت سے نفسیاتی پہلو جیسے قابلیت، تخلیقی صلاحیت اور شخصیت شامل ہوتے ہیں۔ جو عادت و اطوار انسان اپنے والدین سے ورثہ میں حاصل کرتا ہے ان میں ایک بچے کی نشوونما بھی ہے۔ ہمارے Genes ہمارے ارتقاء اور



شکل 4.1 Bronfenbrenner کا نشوونما کا سیاسی سباق کا نظریہ

ہے۔ اس مرحلے میں فرد واحد صرف کچھ حاصل ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ان تمام عوامل کو ترتیب دینے میں مددگار بھی ہوتا ہے۔ درمیانی نظام (Mesosystem) ان رشتوں سے مل کر بنتا ہے جو بنیادی نظام کا ڈھانچہ مرتب کرتے ہیں۔ مثلاً کسی بچے کے والدین کس طرح اس کے ٹیچر سے متعلق ہوتے ہیں یا والدین اپنے بچے کے دوستوں کو کس نظر سے پرکھتے ہیں۔ یہ ایسے تجربات ہیں جو فرد کے دوسروں سے قائم ہونے والے رشتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ باہری نظام (Exosystem) ان تمام سماجی عوامل سے مل کر بنتا ہے جس میں بچہ بلا واسطہ تعلق نہیں رکھتا لیکن یہ عناصر بچے کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً والدین میں کسی ایک کا تبادلہ ان کے بچے پریشانی کا سبب ہو اور اس پریشانی کا اثر بچوں اور والدین کے درمیان رشتوں پر پڑے یا پھر بچے کو ملنے والی سہولیات، جیسے اسکول، لائبریری، طبی سہولیات یا کھیل کود کے ذرائع وغیرہ اسے بھرپور انداز میں نہ مل پائیں۔ طویل یا بڑا نظام (Microsystem) اس تہذیب و تمدن کو بھی اپنے اندر شامل

رہتا ہے۔ اس میں بچپن اور جوانی کے دور بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات بھی اسی طریقی پیچیدہ ہیں جیسا کہ وہ Genes جو ہم ورثہ میں حاصل کرتے ہیں۔

اگر آپ کی جماعت میں مانیٹر پڑھنے لکھنے میں اچھا ہونے کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے یا اس کا انتخاب اس کی مقبولیت پر ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کے Genes کی وجہ سے ہے یا ماحولیاتی اثر کی وجہ سے؟ اگر کسی دیہی علاقے میں رہنے والا قابل بچہ صرف اس وجہ سے کام حاصل نہیں کر پاتا کہ وہ اپنی بات کو صحیح اور بھرپور طریقے سے نہیں کہہ پاتا یا وہ کمپیوٹر پر ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتا تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ اس کے Genes کا اثر ہے یا پھر ماحول کا؟

نشوونما کا سیاسی سباق یا پس منظر

(Context of Development)

نشوونما خلا میں وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ایک مخصوص سماجی و تہذیبی سلسلے سے جڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس سبق میں آگے پڑھیں گے کہ کس طرح انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں مثلاً اسکول میں داخلہ، بچے سے بڑھ کر ایک بھرپور بالغ انسان بننا، کام کی تلاش کرنا، شادی بیاہ، افزائش نسل اور ریٹائرمنٹ۔ یہ سب انسان کی زندگی میں ہونے والے حیاتیاتی تبدیلیوں اور اس کے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماحول انسان کی زندگی کے کسی بھی دور میں اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔

Bronfenbrenner کے نظریے کے مطابق نشوونما کے پس منظر میں ماحولیاتی عناصر کا زبردست کردار ہوتا ہے۔ اس نظریے کو شکل (4.1) میں زیادہ بہتر طریقے سے دکھایا گیا ہے۔

بنیادی نظام (Microsystem) وہ قریب ترین ماحول ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ اس ماحول سے بچہ بلا واسطہ رابطہ قائم کرتا ہے اور سماجی عوامل جیسے خاندان، بزرگ، استاد اور پڑوس سے تعلق بناتا

یہ تمام عناصر آزادانہ طور پر کام نہیں کرتے بلکہ لگاتار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور مشترک انداز میں اثر کرتے ہیں کیونکہ یہ سب زیادہ بڑی اور ساری Setting میں نصب ہوتے ہیں تو اس طرح ماحولیاتی سطح، ظاہری سطح کو متاثر کرتی ہے۔ حالانکہ یہ اثر ہمیشہ ہی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ماحولیاتی سطح کے عناصر ہیں۔ (i) عام جغرافیائی ماحول اس میں بچے کو گھر سے ملنے والی جگہ، کھیلنے کو دینے کی سہولیات اور قرب و جوار کا ماحول شامل ہیں۔ (ii) سماجی پس منظر اس میں ذات اور کلاس وغیرہ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور (iii) بچے کو ملنے والی عام سہولیات جیسا کہ پینے کا پانی، بجلی کی فراہمی اور تفریح کے ذرائع وغیرہ۔

یہ تمام عناصر مختلف انسانوں میں مختلف طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ماحول انسان کی زندگی میں کسی بھی وقت اثر کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی فرد کے عمل کو سمجھنے کے لیے اس کی زندگی کو تجربات اور حالات کے نظر یہ سے سمجھنا چاہئے۔

سرگرمی 4.1

آپ کی زندگی کیسی ہوگی اگر آپ کسی دیہی علاقے میں رہیں اور ان تمام شہری سہولیات سے محروم ہو جائیں جن کے آپ عادی ہیں؟ (یا پھر اس کی ضد یعنی دیہات کا بچہ شہر میں رہے تو؟) چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر اس بات پر بحث کیجئے اور زندگی کو متاثر کرنے والے عناصر جیسے غریبی، جہالت بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی آلودگی کو مد نظر رکھئے۔

نشوونما مراحل پر ایک اجمالی نظر

(Overview of Development Stages)

عام طور سے نشوونما کو مختلف مراحل میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چھوٹے بھائی بہن، آپ کے

کرتا ہے جس میں فرد رہتا ہے۔ آپ نے تیسرے سبق میں کسی بھی انسان کے نشوونما میں اس کے تمدن کے رول کے بارے میں پڑھا ہے۔ تاریخی نظام (Chronosystem) فرد واحد کی زندگی میں ہونے والے واقعات سے جڑا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے سماجی و تہذیبی واقعات جیسے والدین کے بچہ کشیدگی یا طلاق یا معاشی بد حالی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں کل ملا کر Bronfenbrenner کے نظریے کے مطابق ایک بچے کی نشوونما اس پیچیدہ دنیا سے زبردست انداز میں متاثر ہوتی ہے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہے چاہے وہ اس کا اپنے ساتھیوں کے تئیں رویہ ہو اور خواہ وہ حالات ہوں جن میں وہ پیدا ہوا۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بچے محرومی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں (کتابوں، رسائل، کھلونوں وغیرہ کے بنا) وہ ایسے تجربات میں پیچھے ہوتے ہیں جیسے لائبریری استعمال کرنا یا باہر جانا (چڑیا گھر وغیرہ) یا ان کے والدین بھی ان کے لیے ماڈل یا نمونہ نہیں بننے یا بھیڑ بھاڑ اور شور و غل والی جگہوں پر رہتے ہیں۔ ان حالات کا منفی اثر بچوں پر پڑتا ہے اور ان کو سیکھنے اور سمجھنے میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔

درگاندہ سنہا نے 1977ء میں ہندوستانی تناظر میں بچوں کے نشوونما کو سمجھنے کے لیے ایک Ecological Model نمونہ پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق بچے کی نشوونما سمجھنے کے لیے اسے دو سطحوں میں بانٹ دینا چاہئے۔ ایک تو اوپری سطح اور دوسری ماحولیاتی سطح۔ بچے کا گھر، اسکول اور اس کے دوست اور ساتھی وغیرہ ان سطحوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ (i) بچے پر سب سے زیادہ اثر اس کے گھر کا پڑتا ہے۔ مثلاً گھر کے حالات جیسا کہ گھر میں کتنے افراد ہیں، ہر فرد کو کتنی جگہ ملتی ہے، گھر میں کس قسم کی جدید ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ (ii) اسکول میں مہیا کی جانے والی سہولیات، اور (iii) دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات۔ یہ سب بھی بچپن سے ہی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

ملنے والی قوت اور ماں کی جذباتی حالت وغیرہ۔ اگر ماں کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس دور میں بچے کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ مثلاً روبیلا (Rubella)، HIV اور اعضائے تناسل کی بیماریاں نومولود بچے پر سیدھے طور سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ دورانِ حمل ہونے والی نشوونما کے لیے ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے جنین کا غیر طبعی شکل یا جسامت میں ڈھل جانا، یہ ایسے ماحولیاتی عناصر ہیں جو رحمِ مادر میں پل رہے بچے کی اندر غیر متوازن نشوونما پیدا کرتے ہیں اور نتیجے میں یا تو عجیب الخلقیت بچے پیدا ہوتے ہیں یا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ان کو انگریزی میں Teratogenes کہا جاتا ہے۔ ان میں عموماً نشہ آور مادے یا دوائیں، آلودگی یا پھر چھوت کی بیماریاں شامل ہیں۔ دورانِ حمل عورتوں کا نشہ آور دواؤں (ہیروئن یا کوکین وغیرہ)، شراب یا تمباکو کا استعمال ان کے بچے پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور غیر قدرتی نشوونما کو بڑھا دیتا ہے۔ طبعی شعاعیں (Radiation) جیسے ایکس رے وغیرہ، یا پھر کارخانوں سے نکلنے والے کیمیائی مادے جو دھوئیں یا فضلہ کی شکل میں آس پاس پھیل جاتے ہیں، اس دور میں بچے کی نشوونما کو نہ صرف متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے تناسلی خلیوں کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ کاربن مونو آکسائیڈ، پارہ یا پھر دوسرے ماحولیاتی آلودگی کے لیے ذمہ دار مادے رحمِ مادر میں بچے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔

دورِ شیرخوارگی یا عہدِ طفلی (Infancy)

انسان کا دماغ پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد حیرت ناک رفتار سے نشوونما پاتا ہے۔ آپ تیسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ دماغ کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور مغز (Cerebrum) کس طرح سے انسان کی زبان، اس کی صلاحیت اور اس کے شعور کی نشوونما میں حصہ دار ہوتا ہے۔ پیدائش سے کچھ پہلے تک دماغ کے تمام خلیے مکمل نہیں ہوتے۔ پیدائش کے بعد ان خلیوں میں اعصابی رابطہ بہت

والدین یا پھر آپ خود بھی مختلف رویوں کے حامل ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی سب لوگ یکساں برتاؤ نہیں کرتے۔ یہ تفریق اس لیے ہے کہ ہر ایک عمر کے ایک الگ دور میں ہے۔ انسانی زندگی ہمیشہ مختلف مراحل سے گزرتی رہتی ہے۔ مثلاً آپ ابھی نوعمری اور نوجوانی کے دور میں ہیں اور کچھ سالوں میں بعد آپ سن بلوغت کو پہنچ جائیں گے۔ ارتقائی مراحل ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص عادات و اطوار ہی نشوونما کے ہر مرحلے کو اپنے آپ میں مخصوص کرتے ہیں۔ ایک مخصوص دور میں انسان کی کسی خاص مقصد کو پانے کی کوشش اتنی ہی پر زور ہوتی ہے جتنی اس سے بڑی عمر کے لوگ کر چکے ہیں اور ان کی رفتار بھی یکساں نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ انسان نشوونما کے کچھ مراحل کو بہ آسانی طے کر لیتا ہے یا کچھ کاموں میں آسانی سے مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اور کچھ جگہ اس کی صلاحیت و قابلیت دھیمی ہو جاتی ہے۔ انسانی شخصیت کے یہ جو ہر زندگی کے اس دور کی سماجی ضرورت بن جاتے ہیں۔ اس عمل کو ارتقائی مواخذہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نشوونما کے مختلف مراحل اور ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔

پیدائش سے پہلے کا مرحلہ (Prenatal Stage)

حمل سے لے کر پیدائش تک کا زمانہ Prenatal Stage یا پیدائش سے پہلے کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ اس کی مدت عموماً 40 ہفتہ ہوتی ہے۔ اب تک آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہماری نشوونما کا خاکہ ہمارے تناسلی خلیے تیار کرتے ہیں خاص طور سے پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں اور پیدائش کے بعد بھی۔ انسان کی پیدائش سے پہلے کے دور میں ہونے والی نشوونما بھی تناسلی اور ماحولیاتی عناصر سے متاثر ہوتی ہے۔ دورانِ حمل خاص طور سے مادری خصوصیات کا رول نمایاں ہوتا ہے۔ جیسا ماں کی عمر، اس کی غذا سے ماں اور بچے کو

عوامل ایک مربوط نظام کی شکل میں کام کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے میں پیدائش سے پہلے موجود ہوتے ہیں جیسے کھانسنہ، پلکیں جھپکانا یا جماہی لینا وغیرہ، اور یہ اعمال پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کی نشوونما کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے Table 4.1)

جیسے جیسے دماغ کی نشوونما ہوتی ہے جسم بھی ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ بچہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس کے رگ پٹھے اور اعصابی نظام مضبوط ہوتا ہے جو اس کی نشوونما تو کرتا ہی ہے اس کی وجہ سے بچہ بہت سی چیزیں سیکھتا بھی ہے۔ بنیادی جسمانی حرکات (یعنی Motor Activities) میں پکڑنا، چیزوں تک پہنچنا، بیٹھنا، گھٹنوں کے بل چلنا، پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا اور دوڑنا شامل ہیں۔ انسان کی زندگی کا یہ دور تقریباً ہر فرد میں یکساں ہوتا ہے سوائے معمولی تبدیلیوں کے۔

تیزی سے ہوتا ہے۔

نومولود بچہ اتنا بے یار و مددگار نہیں ہوتا جتنا آپ سوچتے ہیں۔ زندگی کے لیے ضروری اعمال اس بچے کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ سانس لیتا ہے، چوستا ہے، نگلتا ہے اور جسم سے فضلے کو باہر نکالتا ہے۔ اپنی پیدائش کے پہلے ہی ہفتے میں بچہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کوئی آواز کس سمت سے آرہی ہے، وہ دوسری عورتوں کے درمیان اپنی ماں کی آواز کو پہچان سکتا ہے اور آپ کی کچھ حرکات کی نقل بھی کر سکتا ہے جیسے منہ کھولنا یا زبان باہر نکالنا وغیرہ۔

حرکاتی نشوونما: نومولود بچے کی حرکات اس اضطراری عمل سے متعین ہوتی ہیں جو خود بخود ہی بچے کو حرکت کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ یہ عمل بھی تناسلی خلیے ہی طے کرتے ہیں اور یہ بعد میں بچے کی متحرک نشوونما یعنی Motor Development کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ نومولود بچہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے، اضطراری

نوشوونما کی راہ	بیان	نوزائیدہ بچے میں موجود اضطراری اعمال	ٹیبل 4.1
			عکس/اضطراریہ
		سر کو گھمانا اور جب گال کو چھوا جائے تو منہ کھولنا	1. بنیادی
		تیز آواز کو سن کر بچہ اپنی بانہیں باہر پھیلاتا اور بند کرتا ہے اور پھر دوبارہ بانہوں کو ایسے پھیلاتا ہے جیسے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو	Moro 2.
		آواز پر ہاتھ پٹکنا جاری رہتا ہے	
		اگر بچے کی ہتھیلی پر انگلی یا دوسری کوئی چیز رکھیں تو بچہ اپنی انگلیاں اس کے گرد کس لیتا ہے	3. پکڑنا/جھپٹنا (Grasp)
		4 ماہ کی عمر سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے جان بوجھ کر پکڑنے کا عمل در آتا ہے	
		اگر بچے کے پیر کے تلوؤں کو چھوا جائے تو پیر کی انگلیاں پھیلاتا اور سکڑتا ہے	Babinski 4.

کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کے دماغ میں نئی نئی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اس سے ان کو دنیا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ Jean Piaget کے مطابق بچے کا دماغ فہم و ادراک کی مختلف منازل طے کرتا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے ٹیبل 4.2)

وقوفی ادراک کا یہ سفر ہر مرحلے میں کچھ خصوصیات کا حامل ہے اور ہر مرحلہ عمر کے مخصوص دور سے متعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ انسان کی سوچ کے مختلف انداز ہی ایک دور کو دوسرے سے منفرد کرتے ہیں نہ کہ خود دائرہ علم۔ یہ اس طرح بھی ظاہر ہے کہ آپ ایک 8 سالہ بچے کے مقابلے دوسری طرح سوچتے ہیں۔ بچہ اپنی شیر خواری کے دور میں اور خصوصاً زندگی کے پہلے دو سالوں میں دنیا کا تجربہ اپنے محسوسات اور اپنے رابطوں سے کرتا ہے۔ دوسروں کی طرف دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے، منہ میں لے کر اور پکڑ کر۔ نوزائیدہ بچہ صرف حال میں زندہ رہتا ہے۔ جو اس کی بصارت سے دور ہو وہ دماغ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ بچے سے وہ کھلونا لے لیں جس سے وہ کھیل رہا ہے اور اسے اس کے سامنے ہی چھپا دیں تو بچہ ایسا برتاؤ کرے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مطلب وہ اس کھلونے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ Piaget کے مطابق عمر کے اس دور میں بچے اپنی قوت احساس سے آگے نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جو چیز وہ محسوس نہیں کر پا رہے وہ موجود ہے۔ اس کوشش کے استقلال کا فقدان (Lack of Object Permanence) بھی کہا جاتا ہے۔ 8 ماہ کی عمر تک پہنچ کر بچہ اپنے سامنے موجود چھپی ہوئی چیزوں کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ زبانی رابطے کی بنیاد بھی کم عمر بچوں میں موجود ہوتی ہے۔ آوازوں کا نکلنا بھی بچے کی بڑ بڑاہٹ سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ عمل 3 سے 6 ماہ کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کتاب کے آٹھویں سبق میں بچے کی ابتدائی زبان اور اس کی نشوونما کے بارے میں پڑھیں گے۔

حسی اہلیت: آپ اب تک سمجھ چکے ہیں کہ نومولود بچے اتنے نااہل نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھے ہیں یا وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی آواز کو اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر دوسری حسی صلاحیتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔

چھوٹے بچے کی نظر کتنی صحیح ہوتی ہے؟ نومولود بچے ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے محرک ہوتی ہیں، جسے چہرے وغیرہ۔ حالاں کہ ان کا یہ ترجیحی برتاؤ چند مہینوں میں بدل جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی بصارت بالغوں کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے۔ چھ ماہ کی عمر ہوتے ہوتے اس میں بہتری آنے لگتی ہے اور پھر ایک سال کی عمر کو پہنچ کر یہ بالکل بالغ انسان کی بصارت کے مماثل ہو جاتی ہے۔ (یعنی 20/20)

کیا ایک چھوٹا بچہ رنگوں کی پہچان کر سکتا ہے؟ نئی تحقیق کے مطابق بچہ سفید اور لال رنگ میں تمیز کر سکتا ہے اور باقی رنگوں کا امتیاز اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن 3 ماہ کی عمر تک پہنچ کر وہ رنگوں کی پہچان بہ آسانی کر سکتا ہے۔ نومولود بچوں میں سماعت کی قوت کیا ہے؟ وہ پیدائش کے فوراً بعد ہی سن سکتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی آواز کی جگہ کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچے محسوس کرتے ہیں اور ان کو چھوا جائے تو اس کا اثر بھی بھی قبول کرتے ہیں۔ ان کو تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ان میں سونگھنے اور چکھنے کی قوت بھی موجود ہوتی ہے۔

وقوفی نشوونما: کیا ایک 3 سال بچہ کی عقل و سمجھ ایک 8 سالہ بچے کے برابر ہوتی ہے؟ Jean Piaget اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچے دنیا کو سمجھنے میں اپنے آپ یعنی قدرتی طور پر مثبت رول ادا کرتے ہیں۔ ان کے دماغ کے ادراک میں صرف ماحول ہی اہم رول ادا نہیں کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ نئی نئی چیزوں

مرحلہ	عمر	خصوصیات
حسیات/محركات (Sensore motor)	2-5 سال	اس عمر میں بچے اپنی حساس قوتوں اور جسمانی حرکتوں کو یکجا کر کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
غیر قطعی/غیر یقینی (Preoperational)	2-7 سال	سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی نشوونما ہوتی ہے۔ پوشیدہ چیزوں کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ بچہ کسی چیز کی مختلف پہلوؤں کو یکجا نہیں کر پاتا
قطعی/پر یقین (Concrete operational)	7-11 سال	بچہ اس عمر میں واقعات کی تحقیق کرنے لگتا ہے۔ چیزوں کو درجات میں رکھ سکتا ہے اور چیزوں کو دیکھ کر مختلف طرح سے عمل کرنے لگتا ہے
پختہ (Formal Operational)	11-15 سال	نوجوان منطق کا استعمال کرنے لگتا ہے اور مفروضے بھی قائم کرنے لگتا ہے

تار اور کپڑے سے بنی تھیں۔ ان میں سے آدھے بچوں کو تار سے بنی ماؤں کے ساتھ رکھا گیا اور باقی آدھے کپڑے سے بنی ماؤں کے ساتھ رہے اور ان کو ان عارضی ماؤں کے ذریعہ ہی غذا بھی فراہم کی گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ سب ہی بچوں نے کپڑے سے بنی ماؤں کو ترجیح دی خواہ وہ کسی بھی ذریعہ سے دودھ پیتے رہے ہوں۔ یہ مطالعہ عصارف طور سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانیت اور لگاؤ کے لیے ماں کے بچے کو دودھ پلانا ضروری نہیں بلکہ بچہ آرام کا طلب گار ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اپنے کسی پسندیدہ کھلونے یا کمبل وغیرہ سے بہت انسانیت ہو جاتی ہے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کیوں کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی ماں نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ چیز اسے راحت اور آرام فراہم کرتی ہے اس لیے وہ اس سے پیار کرتا ہے جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس میں خود اعتمادی آنے لگتی ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔

انسان کے بچے بھی اپنے والدین یا اپنی دیکھ بھال کرنے والے

سماجی و جذباتی نشوونما: بچے پیدائشی طور پر سماجی جاندار ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی بچے کچھ چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے والدین کی توجہ کا جواب دیتے ہیں طرح طرح کی آوازیں نکال کر 6 سے 8 ماہ کی عمر تک بچے کافی متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ نیز نئے چہروں کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں یا تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں جب ماں سے الگ ہونے کا خطرہ نظر آتا ہے۔ ماں باپ سے دوبارہ ملنے پر مسکراہٹ اور لپٹنے جیسے عمل سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پیار و محبت کے یہ جذباتی بندھن جو بچے اور ماں باپ (یا پھر دیکھ بھال کرنے والے آدمی) کے درمیان پنپتا ہے اسے ہی لگاؤ اور انسانیت کہا جاتا ہے۔ Harlow نے 1944ء میں ایک انوکھی تحقیق کی۔ انہوں نے بندر کے کچھ بچوں کو پیدائش کے تقریباً 8 گھنٹے بعد ان کی ماؤں سے الگ کر لیا۔ تجرباتی طور پر ان بچوں کو عارضی طور سے ایسی ماؤں کے ساتھ رکھا گیا جو زندہ نہیں بلکہ

ذہن میں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی حس پنپنے لگتی ہے اور اس طرح اس میں اخلاق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں بچے دھیرے دھیرے جسمانی قوت کو بڑھاتے ہیں۔ کاموں کو اپنے بل بوتے پر کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مقاصد کو طے کرنا سیکھتے ہیں اور اس طرح اپنے بڑوں کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذہن و دماغ کی بتدریج نشوونما اور اس کے ساتھ دنیا کو دیکھنے سمجھنے کا مواقع ملنا۔ یہ دونوں باتیں مل کر بچے کی وقوفی قوتوں کی معمار بنتی ہیں۔

جسمانی نشوونما: ابتدائی نشوونما دو اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ (i) نشوونما ہمیشہ سر سے جسم کے نچلے حصے کی طرف ہوتی ہے (Cephalocandally)۔ بچے اپنے جسم کے اوپری حصے پر پہلے قابو پانا سیکھتے ہیں بہ نسبت نچلے حصوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کا سر اس کے بقیہ جسم کی مناسبت سے بڑا ہوتا ہے۔ یا جب بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو اپنے ہاتھ پہلے آگے کھسکا تا ہے اور اس کے بعد جسم کا باقی حصہ آگے بڑھتا ہے۔ (ii) نشوونما ہمیشہ جسم کے مرکزی حصوں سے شروع ہو کر باہری حصوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اسے Proximodistal رجحان بھی کہتے ہیں۔ مثلاً بچے پہلے اپنے جسم کے دھڑ پر کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ شروعات میں بچے کسی چیز تک پہنچنے کے لیے اپنے پورے جسم کو پلٹتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ہاتھ بڑھا کر اپنے مقصد تک پہنچنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اعصابی نظام کی پختگی سے آتی ہیں نہ کہ کسی کمی کی بنا پر۔ اسی لئے جو بچے بینائی سے محروم ہوتے ہیں ان میں بھی یہی حرکات و سکنات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ پتلے لگنے لگتے ہیں کیوں کہ ان کے جسم میں سر اور ٹانگوں کے بیچ کا حصہ بڑھتا ہے اور جسم کی چربی گھٹنے لگتی ہے۔ اس عمر میں جسم کے باقی حصوں کی بہ نسبت دماغ حیرت انگیز تیزی سے بڑھتا ہے۔ دماغ کی یہ تیز رفتار نشوونما بچے کی بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں استعمال کرنے

ان لوگوں سے انسیت رکھتے ہیں جو ان کے احساسات اور پیار کا مناسب جواب دیتے ہیں۔ Erik Erikson (1962) کے مطابق زندگی کا پہلا سال اس ضمن میں بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ اس دور میں بچہ سمجھتا ہے کہ اسے کس پر بھروسہ کرنا چاہئے اور کس پر نہیں۔ یہ بھروسہ آرام اور راحت کے احساس پر منحصر کرتا ہے۔ اور اس طرح بچے کو اُمید بندھتی ہے کہ دنیا ایک محفوظ اور اچھی جگہ ہے۔ بچے کے اندر بھروسہ کا احساس والدین کے اس کے ساتھ اچھے اور حساس برتاؤ کی وجہ سے نمودار ہوتا ہے۔ اگر والدین کا رویہ پیار بھرا اور بچے کے احساسات کو سمجھنے والا ہے تو بچے کے اندر اپنے ماحول کو کھوجنے کی اور دنیا کو سر کر لینے کی ایک مضبوط بنیاد تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر والدین ہی بے حس اور بد ذوق ہیں اور بچے کے ساتھ غیر مطمئن رہتے ہیں نیز سدا اس کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں تو بچے کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ ایک مضبوط رشتے یا تعلق سے جڑے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مثبت انداز میں متاثر کرتے ہیں، آزادی سے ادھر ادھر گھومتے ہیں اور کھیلتے ہیں جب کہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے والے بچے ماں باپ سے الگ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے ساتھ ایک محفوظ اور پر جوش انسیت کا رشتہ بچے کی صحت مند نشوونما کی سمت پہلا قدم ہے۔

بچپن (Childhood)

شیر خوری کے دور کے مقابلے میں اس دور میں بچے کی نشوونما کی رفتار ڈھیمی پڑ جاتی ہے۔ بچہ جسمانی طور پر بڑھتا ہے، اس کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چلنا، دوڑنا اور کودنا سیکھتا ہے اور گیند کھیلنے لگتا ہے۔ سماجی طور سے بچے کی دنیا والدین سے آگے بڑھ کر خاندان تک پھیل جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس میں گھر کے آس پاس اور اسکول کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بچے کے

پسندیدہ چیز کو بتانے کے لیے بچہ کچھ اشارے استعمال کرنا شروع کرنے لگتا ہے باوجودیکہ کے اس دور میں بچے کا ذہن اور جسم یکساں طور سے متحرک نہیں ہوتا۔ Piaget کے (تقریباً 2 سے 4 سال کی عمر) (دیکھئے ٹیبل 4.2) مطابق بچپن کے ابتدائی دور میں بچہ ان چیزوں کی نمائندگی کرنا سیکھتا ہے جو ظاہری طور سے موجود نہیں ہوتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی ڈرائنگ میں پیڑ پودے، جانور، گھر اور انسان بناتے ہیں۔ بچے کی یہ صلاحیت یا اشاراتی تخلیقی قوت اس کی ذہنی نشوونما میں معاون ہوتی ہے۔ بچے کی یہ تخلیقی قوتیں لگاتار بڑھتی رہتی ہیں۔ عمر کے اس دور کی نشوونما یا ارتقاء کا ایک دلچسپ پہلو خود شناسی ہے۔ بچے دنیا کو صرف اپنے لیے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسروں کے نقطہ نظر کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کو Egocentrism بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر چیز زندہ ہے، خود ان کی طرح یعنی وہ Animism میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بے جان چیزوں کے ساتھ جاندار چیزوں کی خصوصیات جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر

میں مدد کرتی ہے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ایک ساتھ استعمال، پینسل کو ہاتھ سے پکڑنا یا پھر لکھنے کی کوشش کرنا۔ بچپن کے درمیانی اور اختتامی سالوں میں بچے حجم اور طاقت میں بڑھتے ہیں یعنی ان کا وزن بڑھتا ہے جس کی وجہ ان کے جسمانی ڈھانچے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کچھ اعضاء میں بھی نشوونما ہوتی ہے۔

حرکاتی نشوونما: بچپن کے ابتدائی حصے میں محرکاتی صلاحیتیں بازوؤں اور ٹانگوں کی حرکات پر مبنی ہوتی ہیں۔ بچہ اپنے ماحول میں کس طرح پر اعتماد انداز میں چلتا پھرتا اور کھیلتا ہے یہ اسی بات پر منحصر ہوتا ہے۔ پھر تیلی صلاحیتیں، جیسے انگلیوں سے مہارت کے کام لینا یا آنکھ اور ہاتھ کا ایک مقصد کے لیے پھرتی سے کام کرنا، بھی بچپن کے اس دور میں نشوونما پاتی ہیں۔ اسی دوران بچے کے ذہن میں داہنے اور بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا تصور جنم لیتا ہے۔ ٹیبل 4.3 کی مدد سے آپ حرکاتی نشوونما کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

وقوفی نشوونما: کسی پسندیدہ چیز کی موجودگی کا تصور بچے کے ذہن میں اس چیز کی نمائندگی کرنے کا طریقہ پیدا کرتا ہے یعنی اپنی

حرکاتی نشوونما کی تکمیل		ٹیبل 4.3
مخصوص حرکات و سکنات	عام حرکات و سکنات	عمر (سالوں میں)
بلاک بنانا اور چیزوں کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ملا کر اٹھانا	کودنا، دوڑنا، اُچھلنا	3 سال
Jigsaw کھیلوں کو صحیح انداز میں جوڑنا	اوپر چڑھنا اور اترنا (سیڑھیاں) خصوصاً ہر سیڑھی پر ایک قدم رکھنا	4 سال
آنکھ کی حرکت کے ساتھ ہاتھ، بازو اور پورے جسم کا حرکت میں آنا	تیز دوڑنا، دوڑ کے کھیل کو پسند کرنا	5 سال

بچے کی جگہ چھوٹی عمر کے بچے سے (جو شعوری ادراک کے ابتدائی دور میں ہو) یہ سوال کیا جاتا تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ شاید گیند کی باہری جسامت پر ہی اپنا ذہن مرکوز رکھتا۔ اس کا مطلب ایک ٹھوس عمل (Concrete Operations) بچے کو مختلف مراکز پر توجہ دینا سکھانا ہے اور بچہ صرف ایک ہی مرکز پر نہیں ٹکا رہتا۔ کسی بھی چیز کے مختلف پہلوؤں کو وہ ایک ساتھ دیکھنا اور موازنہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ذہن میں اس طرح کی نشوونما ہونے سے بچے کے دماغ میں پہلے سے موجود خود پسندی و خود شناسی (Egocentrism) کا رویہ بھی دھیرے دھیرے زائل ہونے لگتا ہے۔ اس کی سوچ میں لچیلپان آ جاتا ہے اور مسائل کے حل کے لیے وہ مختلف پہلوؤں پر سوچنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ذریعہ اٹھائے گئے اقدام کا مواخذہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ Pre-operational Stage یا قبل از عمل کے مرحلے میں بھی کچھ کسی چیز کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے لگتا ہے لیکن وہ موازنہ یا مواخذہ نہیں کر پاتا۔ وہ کسی چیز کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں اندازے قائم نہیں کر پاتا۔ جیسے مثال کے طور پر الجبرا کے سوال یا جغرافیائی حالات کو جاننے کے لیے عرض البلد اور طول البلد کا مفروضہ قائم کرنا۔

بچے کی وقوفی نشوونما اس کی زبان کو بھی طے کرتی ہے۔ آپ آٹھویں سبق میں پڑھیں گے کہ بچے کس طرح اپنی بول چال کے الفاظ کو جمع کرتے ہیں اور کس طرح گرامر یا صرف و نحو سیکھتے ہیں۔

سماجی / جذباتی نشوونما: بچے کی سماجی اور جذباتی نشوونما کے تین پہلو ہیں: خود اپنی ذات۔ اس کی جنس اور اخلاقی نشوونما۔ بچپن کے ابتدائی دور میں بچے کی ذات میں ہی کچھ نمایاں نشوونما ہوتی ہے۔ بچہ سماج سے متعارف ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو اپنی ذات کا علم بھی ہونے لگتا ہے کہ وہ خود کون ہے؟ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آزادی کا احساس بچوں کو اپنے طور سے کام کرنے کے لیے اُکساتا ہے Ericksan کے مطابق والدین

ایک بچہ سڑک پر پھسل کر گر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ”سڑک نے مجھے چوٹ ماری“ یہ اس کی نفسیات کا Animism کا پہلو ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور 4 سے 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں اپنے ہر سوال کا جواب چاہئے ہوتا ہے۔ جیسے آسمان نیلا کیوں ہے؟ پیڑ کیسے بڑھتے ہیں؟ اور ایسے ہی دوسرے سوالات۔ اس قسم کے سوالات بچے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو جاننے اور سمجھنے لگتا ہے۔ Piaget اس مرحلے کو وجدانی ادراک یعنی intuitive thought کا نام دیتے ہیں۔ قبل ازیں عمل مرحلہ (Pre-operational Stage) کی ایک اور خاصیت بچوں کے اندر Centration کے رجحان کا پیدا ہونا ہے۔ اس میں بچے کسی ایک واقعے کو سمجھنے کے لیے کچھ خاص عناصر پر ہی توجہ رکھتے ہیں مثلاً ایک بچہ جوس کا ایک بڑا گلاس پینے کے لیے ضد کرتا ہے اور وہ ایک چھوٹے اور چوڑے گلاس پر ایک پتلے لمبے گلاس کو ترجیح دیتا ہے حالانکہ دونوں گلاس میں برابر مقدار میں جوس آئے گا۔

جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اور 7 سے 11 سال کی عمر کو پہنچتا ہے (یہ بچپن کا ابتدائی اور درمیانی زمانہ ہے) بچوں کے ذہن کا یہ وجدانی ادراک منطقی سوچ میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک پختہ سوچ اور پختہ طریق عمل ہے۔ اس دور میں بچے کی ذہنی رواں کوان کاموں کو کرنے کے لیے اُکساتی ہے جو اس سے پہلے کے لوگ کر چکے ہیں۔ ایک مطالعہ کرنے کے لیے ایک بچے کو مٹی کی ایک جیسی نظر آنے والی دو گیندیں دی گئیں۔ تجربہ کرنے والے شخص نے ایک گیند پر لمبی پتلی پٹی چڑھا دی اور دوسری اپنی اصل حالت میں رہنے دی۔ پھر 7-8 سالہ بچے سے پوچھا گیا کہ کس گیند میں زیادہ مٹی ہے۔ بچے کا جواب تھا کہ ”دونوں ایک جیسی گیندیں ہیں اور دونوں میں برابر مٹی ہے۔“ اس کا مطلب بچے نے اپنے ذہن سے منطق کا استعمال کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک گیند کو مٹی پلیٹ کر مختلف کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن درحقیقت دونوں گیندیں یکساں ہیں۔ لیکن اگر اس عمر کے

سرگرمی 4.2:

سے کہا جائے کہ ان کے سوال بیکار اور بے احمقانہ ہیں یا ان کے کھیل صحیح نہیں ہیں تو بچے میں خود اعتمادی کا فقدان ہو جاتا ہے اور وہ مستقل طور پر ایک احساسِ جرم سے گھرا رہتا ہے۔ یہ احساسات اس کی پوری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی عمر میں خود کو سمجھنے کی صلاحیت اکثر جسمانی بناوٹ و ساخت پر منحصر کرتی ہے، جیسے میں لمبا ہوں، اس لڑکی کے بال کالے ہیں، میں ایک لڑکی ہوں وغیرہ۔ بچپن کے درمیانی اور اختتامی دور میں بچے اپنے آپ کو اپنی خصوصیات کی بنا پر پہچاننے لگتے ہیں جیسے ”میں اسمارٹ ہوں اور بہت مقبول ہوں“ یا ”جب اسکول میں ٹیچر مجھے کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔“ خود اپنی ذات کی پہچان میں نفسیاتی پہلو بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ بچے اپنی پہچان سماج کے مختلف گروپ سے منسلک ہو کر بھی کرتے ہیں جیسے اسکول میں موسیقی کلب کا ممبر ہونا، ماحولیاتی گروپ کا ممبر ہونا یا پھر کسی مذہبی ادارے

ایک سائز کے دو شفاف گلاس لیجئے اور ان میں پانی کی یکساں مقدار ڈالیے۔ اپنے اسکول کے کلاس دوئم اور پنجم کلاس کے بچے سے پوچھئے کہ کیا دونوں گلاسوں میں برابر مقدار میں پانی ہے؟ اب الگ سے ایک بڑا اور پتلا گلاس لیجئے اور پہلے دو گلاسوں میں سے ایک کا پانی اس پتلے لمبے گلاس میں پلٹ دیجئے۔ اب بچوں سے پوچھئے کون سے گلاس میں زیادہ پانی ہے؟ کیا ان کے جوابات میں کوئی فرق ہے؟

کا جوابی رویہ بچوں کے اندر خود اعتمادی یا احساسِ جرم پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دوڑنے بھاگنے، اسکیٹنگ کرنے اور سائیکل چلانے کی آزادی یا بچوں کے سوالات کے مشفقانہ جوابات دینے سے ان کے اندر فیصلہ لینے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ان

جنس کارول (Gender)

4.2 باکس

نسبت زیادہ لچیلے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہیں یا پھر دوسرے الفاظ میں عورتیں پیدائشی طور پر کچھ مخصوص زنانہ خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں؟ اور مرد کچھ الگ مردانہ خصوصیات کے مالک؟ یا پھر یہ فرق دنیا کی دین ہے جس میں ہم رہتے ہیں؟

لوگوں کے سماج میں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے میں ان کی جنس بہت بڑا اور اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کے یعنی عورت اور مرد کے ایک دوسرے کے تئیں رویوں کی ساخت ہوتی ہے۔ اکثر جنس کا مطلب انسان کی جسمانی ساخت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جسمانی طور سے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ جبکہ انگریزی لفظ Gender ان کے سماجی کردار کا عکاس ہوتا ہے۔ Gender کے بہت سے پہلو ہیں۔ جس میں سب سے ضروری مذکور اور مؤنث

کیا شطرنج مردوں کا کھیل ہے یا عورتوں کا یا پھر دونوں اسے کھیل سکتے ہیں؟ کیا تنور میں کھانا بنانا عورتوں کا کام ہے؟ ڈرائیونگ بحث و مباحثہ یا فزکس لیبارٹری میں کام کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا ان اشیاء کا دھیان کیجئے جو ٹیلیویژن پر عورتوں اور مردوں کے لیے بیچی جاتی ہیں۔ یہ سب ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ لڑکیاں اور لڑکوں کو کیسا ہونا چاہئے؟

ماہر نفسیات نے بہت گہرا مطالعہ اس نہج پر کیا کہ کیا واقعی جنسی طور پر کوئی تفریق کی جاسکتی ہے۔ ان مطالعوں سے یہ بات سامنے آئی کہ مرد ہمیشہ ہی جھگڑالو ہوتے ہیں۔ وہ عورتوں کے مقابلے دوڑ بھاگ اور لمبی چھلانگ والے کھیل اچھے کھیل سکتے ہیں جبکہ عورتیں مردوں کے مقابلے ایسے کام زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہیں جن میں آنکھ اور ہاتھ کے ربط کی ضرورت ہو۔ ان کے اعضاء مردوں کی

سے منسلک ہونا۔ بچے اکثر اپنا تقابلی مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اکثر سوچتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ”میں نے اٹل سے زیادہ نمبر حاصل کئے“ یا ”میں کلاس کے باقی بچوں کے مقابلے میں تیز بھاگ سکتا ہوں۔“ اسی طرح وہ اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد کر کے دیکھتے ہیں۔

جب بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی سماجی دنیا ان کے خاندان سے آگے پھیلتی ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اپنے ہم عمروں کے ساتھ گزارا ہوا یہ وقت

کی پہچان ہے۔ اس پہچان کو عموماً بچہ تین سال کی عمر میں ہی حاصل کر لیتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ڈھنگ سے سماج میں اپنی پہچان کر سکتا ہے۔ پھر جوں جوں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے یہ تفریق اور پہچان ان کے کھیل اور کھلونوں میں جھلکنے لگتی ہے۔

تذکرہ و تانیٹ کا یہ فرق وہ معیار منتخب کرتے ہیں جن کے ذریعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہئے۔ انہیں کیسے سوچنا، سمجھنا اور کام کرنا چاہئے۔ عمر کے ابتدائی دور میں والدین کا رویہ بھی بچہ کا یہ برتاؤ طے کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ والدین اکثر اوقات بچوں میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ لڑکا ہیں یا لڑکی، ان کو مختلف انعامات یا سزائیں دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم عمر ساتھی بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔

والدین اکثر اسکول جانے والی لڑکیوں پر اسکول جانے والے لڑکوں کی بہ نسبت زیادہ سختی کرتے ہیں۔ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو مختلف طرح کی ذمہ داریاں سونپتے ہیں۔ روزمرہ میں والدین اکثر اپنی بیٹیوں کو ایسی نصیحت دیتے ہیں کہ وہ ان کی تابعدار رہیں اور والدین پر انحصار کریں جبکہ لڑکوں کو آزاد رہنے کی چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میڈیا میں چھپنے والے اشتہارات اور کارٹون بھی اسی معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اشتہارات کے بغور مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ

بھی ان کی نشوونما میں اہم حصہ ادا کرتا ہے۔

اخلاقی نشوونما: بچے کی نشوونما کا ایک اور اہم پہلو ہے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا ہے۔ کسی بھی طرح بچے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس کرتے ہیں یا دوسروں کی پریشانی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں اخلاقی نشوونما کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب بچے خاندانی اور سماجی طور پر پوری طرح پنپ جاتے ہیں تب باری آتی ہے ان کے اخلاقی نشوونما کی۔ لارنس کول برگ نے کچھ بچوں پر ایک تجربہ کیا۔ ان بچوں کو کچھ ایسی

خواہ کوئی بھی تمدن ہو، مرد کو ہمیشہ طاقتور دکھایا جاتا ہے اور عورتوں کو اکثر و بیشتر گھریلو کام کاج کرتے اور مردوں پر انحصار کرتے دکھایا جاتا ہے۔ عورتیں اکثر جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والے سامان کے اشتہارات میں نظر آتی ہیں اور مرد کھیل کود والے اشتہارات میں۔

ایک بار بچوں کو جب مذکر اور مؤنث کا فرق میں سمجھ آ جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا اسی اصول پر منظم کرتے ہیں۔ بچوں کا رویہ ان کی اندرونی سوچ سے متاثر ہوتا ہے اور یہ سوچ سماج میں پنپ رہی جنسی تفریق پر منحصر معیار سے بنتی ہے۔ بچے بہت تیزی سے اس معیار کو اپناتے ہیں اور وہ دوسروں سے بھی Gender پر منحصر رویوں کی امید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی عمر کے لڑکے فینسی ڈریس کے مقابلے میں لڑکیوں کا لباس پہننے سے انکار کر دیں، تو یہ اسی فطری فعل کا عکاس ہے۔ ”گھر گھر“ کھیلنے کے دوران لڑکیاں باپ کا رول ادا کرنے سے منع کر دیں، یہ بھی ان کی اس فطرت کی عطاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے Gender کے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔ جب بچے اپنی پہچان اس ضمن میں کر لیتے ہیں تو وہ اپنی ہی جنس کے کسی طاقتور اور مقبول شخص کو اپنا ماڈل بنا لیتے ہیں۔ اس کو Gender Typing کہا جاتا ہے۔

سرگرمی 4.4:

حصے میں سن بلوغت کے قوانین پر بحث ہوگی۔

سرگرمی 4.5:

اگر کوئی مریض بہت زیادہ بیمار ہے اور برسوں سے ہسپتال میں پڑا ہے اور اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی تو کیا زندگی کا بچاؤ کرنے والے آلات کو ہٹالینا چاہئے۔ رحمی قتل (Mercy Killings) پر مباحثہ کیجئے کیونکہ بسا اوقات مریض یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے یہ خواہش کی جاتی ہے۔

غفوانِ شباب میں درپیش چیلنج

(Challenges of Adolescence)

غفوانِ شباب یعنی Adolescence لاطینی لفظ "Adolescere" سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پختگی کی طرف نشوونما۔ یہ انسان کی زندگی میں بچپن اور بلوغ کے درمیان کا عبوری دور ہے۔ یہ عام طور سے انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو میانے پن سے شروع ہوتا ہے اور اس عمر میں انسان بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر تولیدی اعضا کی نشوونما ہونے لگتی ہے۔ اس عمر میں انسان میں جسمانی اور نفسیاتی دونوں پہلوؤں سے زبردست تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جسمانی تبدیلیاں تو سب ہی میں یکساں ہوتی ہیں لیکن سماجی اور نفسیاتی تبدیلیاں انسان کے تمدنی پس منظر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ مثلاً جن جگہوں پر سن بلوغت کو پہنچنا پریشانیوں اور الجھنوں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہاں نوبالغ کے تجربات مختلف ہوں گے بمقابلہ ان بچوں کے جو ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں بچوں کو اس عمر میں پہنچنے پر ان کے ساتھ ایک سلجھا ہوا اور سمجھ دار رویہ راکھا جاتا ہے اور بچوں کو اب بچہ نہیں بلکہ برابر کا فرد سمجھا جانے لگتا ہے اور انہیں ذمہ داریاں بھی سونپی جاتی ہیں۔ حالانکہ تقریباً سب ہی طرح کے تمدن اور سماج میں سیانے پن کا یہ دور کچھ زیادہ لمبا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی

اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکے کی طرح ایک کیجئے اور اگر لڑکا ہیں تو لڑکی کی اداکاری کیجئے۔ اپنے والدین اور دوسروں کے سامنے ایسا تقریباً ایک گھنٹے تک کیجئے۔ اپنے اس تجربے کے بارے میں سوچئے اور دوسروں پر اپنے رویے کے ردعمل کو نوٹ کیجئے۔ آپ ان سے اس بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ کیا کسی دوسری جنس کی اداکاری کرنا مشکل کام ہے؟

کہانیاں پڑھنے کو دی گئیں جن کے کردار اخلاقی پس و پیش کی حالت میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد ان بچوں کو کچھ ایسی کہانیاں پڑھنے کو دی گئیں جن کے کردار اخلاقی پس و پیش و گومگو کی حالت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان بچوں سے پوچھا گیا کہ ان کرداروں کو کیا کرنا چاہئے؟ اور کیوں؟ کول برگ کے مطابق بچوں نے صحیح اور غلط کے بارے میں سوچ سمجھ کر جواب دیے لیکن عمروں کا فرق ان کی سوچ پر حاوی رہا۔ کم عمر بچے یعنی 9 سال سے کم عمر والے بچوں کی سوچ باہری طاقت و استحکام تک محدود اجزا کے واقعات پر منحصر تھی۔ لیکن نوجوان لوگوں نے اس سوال کا جواب سماجی معیاروں کے مطابق دیا جیسے اخلاقیات کے اصول یا والدین اور سماج کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں۔ یہ تمام قوانین بچوں نے اپنے اصولوں کے طور پر مان کر فیصلہ کیا کہ اس لیے ان قوانین کو نہ ماننے سے کوئی سزا ملے گی۔ بچے ان تمام قوانین کو سختی سے مان کر اس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ عمر کے اس دور میں اخلاقی سوچ میں کوئی لچک نہیں رہتی اور جیسے جیسے عمر اور بڑھتی ہے، ہر انسان اپنا ذاتی اخلاق مرتب کر لیتا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ بچپن کے اختتامی دور تک پہنچنے پہنچتے کس طرح بچہ رابطہ اور توازن برقرار رکھتا ہے۔ اور بچے کے ذہن میں ہر بات کی منطق پیدا ہونے لگتی ہے۔ سماجی نظام جیسے خاندان اور ہم عمر ساتھیوں سے بچہ زیادہ ملنے جلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اگلے

یکساں نہیں ہوتا۔

تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ اس عمر کے افراد مخالف صنف میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں اور جنسیاتی حس بھی ان کے اندر انگڑائی لینے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جسم میں ہونے والی حیاتیاتی یا شکلی تبدیلیوں کی طرف افراد کا دھیان مرکوز ہونے لگتا ہے اور والدین اور ہم عمر ساتھی بھی اس طرف دھیان دینے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے نوعمر بچوں میں یا تو اس سلسلے میں علم کا فقدان ہوتا ہے یا پھر جنسیات کے بارے میں ان کے دماغ میں بے تکے بھرم جمع ہو جاتے ہیں۔ جنسیات ایسا موضوع ہے جس پر والدین بچوں سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں اسی رویہ کی وجہ سے بچے بھی اپنے محسوسات کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں اور نتیجتاً واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دماغ میں بھرم اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ آج کے دور میں AIDS کے خطرے کی وجہ سے یہ موضوع زیادہ نازک ہو گیا ہے۔ بچوں میں جنسیات کے تئیں احساس اور پہچان ان کے جنسی رویے طے کرتی ہیں اور اس طرح نوعمر بچوں میں یہ ایک اہم ارتقائی مرحلہ ہے۔ آپ نے خود اپنے بارے میں کیسا محسوس کیا جب آپ عمر کے اس دور میں پہنچے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہوں یا پھر جسم میں ہونے والی تبدیلیوں پر آپ نے فخر محسوس کیا ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے پر دوسری طرح سوچا ہو اور آپ کے ہم عمر ساتھیوں اور والدین کا رویہ بالکل مختلف رہا ہو۔ نوعمر بچے اپنے دماغ میں پہلے سے ہی یہ بٹھالیتے ہیں کہ وہ کیسے لگتے ہیں یا انہیں کیسا دکھنا چاہئے۔ اس عمر کا ایک اور پہلو ہے کہ بچہ اپنی عمر کی چٹنگی کو خود سمجھے اور مانے۔ ان کے ذہن میں جسم میں ہونے والی ظاہری تبدیلیوں کا صحیح خاکہ ہونا چاہئے جو ان کے نظریے کے بھی مطابق ہو۔ یاد رکھئے کہ سن بلوغت میں سماجی اور شعوری تبدیلیاں بھی انسان میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

ادراک و فہم یا شعور میں ہونے والی تبدیلیاں: نوبالغوں کی سوچ زیادہ صحیح، منطقی اور معیاری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے خیالات

جسمانی نشوونما: جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا اپنی عمر کے سیانے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بچپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بچے کے جسم میں حیرت ناک تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے جسم میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اندرونی طور سے جنسی خصوصیات میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دور انسان کی جسم میں اچانک نہیں آتا بلکہ یہ ایک بہت دھیمی رفتار سے چلنے والا عمل ہے۔ اس عمل میں جسم سے جو ہارمون خارج ہوتے ہیں وہی انسان کی جنسیاتی نشوونما کرتے ہیں۔ یہ نشوونما دو پہلوؤں سے ہوتی ہے، ایک بنیادی اور دوسرا ثانوی۔ بنیادی تبدیلیاں بلا واسطہ طور پر تولیدی عمل سے متعلق ہوتی ہیں۔ ثانوی نشوونما کی وجہ سے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسا کے بالغ ہونے کے طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لڑکوں میں یہ تبدیلیاں قد میں اضافہ، چہرے پر داڑھی موٹھوں کے بال آنا، آواز میں بھاری پن پیدا ہونا وغیرہ کی شکل میں سامنے آتی ہیں جب کہ لڑکیوں میں عام طور سے 12 سے سال اور لڑکیوں میں 10 سے 11 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی حتمی عمر نہیں ہے۔ اس میں ہر دو افراد میں جلد یا بدیر یہ عمل شروع ہو سکتا ہے اور اس بات کے لیے تناسلی اور ماحولیاتی دونوں عناصر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثلاً دو جڑواں بہن بھائیوں میں یہ عمل دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت ایک ہی ساتھ شروع ہو سکتا ہے۔ ایسی لڑکیاں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ جلدی سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں بہ نسبت ان بچیوں کے جو غریب یا معاشی طور پر پسماندہ گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاریخ اس بات کی عکاس ہے کہ ترقی یافتہ اور خوشحال قوموں میں بلوغت کی عمر گھٹ رہی ہے یعنی بچے جلدی ہی زندگی کے اس دور تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کا واضح سبب بہتر غذا اور بہتر طبی سہولیات ہیں۔

اس عمر میں جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بہت سی نفسیاتی

دیتے ہیں مثال کے طور پر اس عمر کے لوگ کسی خاص مقصد کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کالج کے قوانین کے مطابق چلیں۔ نوبالغ لوگ اپنے ارد گرد ایک خاص قسم کا خود پرستی و خود شناسی کا خول چڑھا لیتے ہیں۔ ڈیوڈ الکا سنڈ کے مطابق دو عناصر اس رویے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ایک تو یہ سوچ لینا چاہئے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے بارے میں اتنا ہی متوجہ اور پر خیال ہیں جتنا وہ خود اپنے لیے سوچتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ہر وقت ان کو نوٹس کرتے ہیں اور ان کا ہر رویہ دوسروں کی نظر میں ہے۔ ایسے ایک لڑکے کا تصور کیجئے جس کو لگتا ہے کہ اس کی قمیص پر لگا ہوا سیاہی کا دھبہ سب کی نظروں میں ہے یا کوئی لڑکی اپنے مہاسے کو لے کر اس لیے پریشان ہو کر کہ لوگ سوچیں گے اس کی جلد کتنی خراب ہے۔ ان کا یہ رویہ ہی انہیں اپنے تئیں بہت حساس بنا دیتا ہے۔ اس ضمن میں دوسرا عنصر ہے ان کی منفرد سوچ۔ اس عمر میں اکثر لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے نامناسب رویے سے اس کو کتنی تکلیف پہنچی۔ اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے ارد گرد خیالات کا تانا بانا بن لیتے ہیں جو حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہوتا ہے۔ یہ ذاتی خیالی پلاؤ اکثر نوبالغ بچوں کی ڈائری کی زینت بنتے ہیں۔

شخصیت کی تشکیل: آپ نے اکثر اس قسم کے سوالات کے جواب ڈھونڈے ہوں گے کہ میں کون ہوں؟ مجھے کون سا موضوع پڑھنا چاہئے؟ کیا میں خدا کی ذات میں یقین رکھتا ہوں؟ اس قسم کے سوالوں کے جواب انسان کی اپنی ذات کے بارے میں کھوج کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسان خود اپنی ذات کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اس بات کی پہچان چاہتا ہے کہ وہ خود دراصل کون ہے اور اس کے عقائد و خیالات کیا ہیں۔ نوبالغ عمر میں فرد کی سب سے بنیادی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو اپنے والدین سے الگ کر کے اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہے۔ یہ خواہش انسان کے دماغ میں کچھ ذاتی اصولوں اور عقائد کو جنم

نیز دوسروں کے خیالات کو پرکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات میں بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ زندگی کا یہ دوران کی فہم و فراست کو ایک نیا موڑ دیتا ہے اور وہ سماج کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ Piaget کے مطابق 11 سے 15 سال کی عمر میں انسان کا ذہن قطعی اور حتمی طور سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ظاہری تجربات سے الگ ہٹ کر سوچنے لگتے ہیں اور اس عمر میں وہ منطقی دلائل کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں معیاری خصوصیات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تقابلی مطالعہ و موازنہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنے ذہن میں بہترین والدین کی شبیہ تیار کر لیتے ہیں اور پھر اپنے والدین کو اس معیار سے پرکھنے لگتے ہیں۔ اس عمل میں وہ کبھی کبھی حیران و پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں کون سا معیار اپنانا چاہئے، یعنی وہ جو درحقیقت ان کے سامنے ہے یا جوان کے دماغ میں ہے۔ بچپن میں بچہ ہر چیز کو بار بار کوشش کر کے پرکھتا ہے۔ اس کے برخلاف نوبالغ لوگ زیادہ منظم طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ وہ کسی بھی کام کے لیے دماغ میں اس کا خاکہ سلسلہ وار مرتب کرتے ہیں۔ Piaget کے مطابق بالغ لوگوں کا یہ رویہ مفروضات سے نکلی ہوئی دلیلیں پیش کرنا (Hypothetical Deductive Reasoning) کہلاتا ہے۔ دماغ میں منطق اور فہم کی نشوونما اخلاقی قدروں کو بھی اُجاگر کرتی ہے لوگ سماجی قوانین کو حتمی معیار ماننا بند کر دیتے ہیں اور ان کے دماغ میں موجود اخلاقی قدروں کی وجہ سے سوچ میں لچبلا پن آجاتا ہے۔ نوبالغ لوگ مختلف اخلاقی معیار کو پرکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اپنا ایک منفرد اخلاقی معیار منتخب کرتے ہیں۔ مثلاً کیا مجھے سب کی طرح سنگریٹ پینی چاہئے؟ کیا امتحان میں نقل کرنا مناسب فعل ہے؟ اس طرح کی سوچ افراد میں ایسا نقطہ نظر پیدا کر دیتی ہے کہ اگر وہ ان کے ذاتی معیار سے ٹکراتے ہیں تو وہ اکثر سماجی قوانین کی نفی کر

والدین اور دوست مل کر انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور اس میں معاون ہوتے ہیں۔ انسان کی کسی بھی پیشے کو اپنانے کی تمنا اور طلب بھی اس کی شخصیت کو تشکیل کرتی ہے۔ یہ سوال کہ ”بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟“ انسان کو مستقبل کی پلاننگ کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ان مقاصد کی تشکیل کرتا ہے جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سماج کے کچھ طبقوں میں بچوں کو اپنا پیشہ یا کام چننے کی آزادی دی جاتی ہے جبکہ کچھ طبقوں میں بچوں کو مجبوراً والدین کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ آپ نے جب اپنے موضوعات کا انتخاب کیا تو آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا؟ اسکولوں میں Career Counselling کا چلن اسی لئے ہو گیا ہے کہ طالب علموں کو مختلف مضامین اور تعلیمی مواقع (Courses) کی معلومات دی جاسکے اور ان کی راہ نمائی کی جائے کہ وہ اپنی پڑھائی اور پیشے سے متعلق فیصلہ کر سکیں۔

سن بلوغت کے کچھ چیلنج: جب ہم اپنی پختہ عمر میں پہنچ کر بلوغت کے ابتدائی دور کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس دور میں درپیش مسائل جیسے اُلجھنیں، اکیلا پن، دباؤ وغیرہ کو یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک غیر محفوظ دور تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس دور میں دوستوں کے دباؤ، نئی نئی آزادی کا احساس اور بہت سے غیر حل شدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ دوستوں کا اثر مثبت اور منفی دونوں ہی طرح کا ہو سکتا ہے۔ نوبالغ اکثر ایسے قوانین کی زد میں آجاتے ہیں، جیسے سگریٹ پینا، نشہ آور دوائیں استعمال کرنا اور شراب پینا وغیرہ اور اکثر و بیشتر وہ ان معاملات میں والدین کے ذریعہ بنائے گئے قوانین کو توڑتے ہیں اور ان قوانین کو توڑتے وقت وہ ان اعمال کی سنگینی یا اثر سے واقف نہیں ہوتے۔ نوبالغ افراد اکثر بے یقینی، اکیلا پن، غیر یقینی اور اپنے مستقبل کے لیے پریشانی کا شکار کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی وہ خوشی، جوش اور مقابلہ کرنے کی خواہش جیسے احساسات سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ اب آپ ایسے ہی کچھ

دیتی ہے۔ اس عمل میں اس کے ذہن میں والدین کے اصولوں سے ٹکراؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی انسان خود اپنی سوچ اور ذہنی رجحان سے بھی ٹکراؤ محسوس کرتا ہے۔ جو افراد اس اُلجھن اور ٹکراؤ سے بخوبی نمٹ لیتے ہیں وہ اپنی ذات کی ایک نئی تشکیل کر پاتے ہیں اور جو اس دور سے بچر نہیں گزرتے وہ اُلجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو والدین، خاندان اور ہم عمر ساتھیوں سے الگ کر لیتے ہیں یا پھر وہ بھیڑ میں اپنی پہچان بھول جاتے ہیں۔ نوبالغ لوگ ایک طرف آزادی چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف اس سے گھبراتے بھی ہیں اور اپنے والدین پر منحصر رہتے ہیں۔ اس عمر میں خود اعتمادی اور عدم اعتمادی کا یہ کھیل بہت زیادہ چلتا ہے۔ ایک طرف ان بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ”انہیں ایک خور دسال بچے کی طرح سمجھا جا رہا ہے“ اور وہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو دوسری طرف وہ والدین پر انحصار کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اپنی شخصیت کی کھوج میں انسان اپنے اندر یکسانیت کی تلاش کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور حتمی اور قطعی طور سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہی اس کی اپنی پہچان ہے۔

مختلف عناصر انسان کی شخصیت کی تشکیل میں مددگار ہوتے ہیں۔ خاندان، والدین، سماجی اقدار، نسلی تناظر، معاشی حالات اور اس کا تہذیبی ورثہ! یہ سب عناصر کسی انسان کا سماج میں مقام طے کرتے ہیں۔ نوبالغ عمر میں خاندانی رشتے مانند پڑ جاتے ہیں کیوں کہ انسان زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا ہے اور وہ باہر اپنے ہم عمر ساتھیوں کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ زیادہ وقت اور تعاون اس کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سماج میں مختلف اقدار کی جانب پائے جانے والے رویوں کو سمجھ سکے۔ دوست اور والدین دونوں ہی نوبالغ لوگوں کی زندگی پر زبردست طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی والدین اور بچوں کے مابین کوئی اُلجھن ان کو ساتھیوں اور دوستوں کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر

چیلنج کے بارے میں پڑھیں گے جو نوبالغ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔

غفلت/فروگذداشت: غفلت یا تقصیر ایسے رویوں کی عکاسی کرتی ہے جو سماجی طور سے ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ یہ قانونی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور سنگین جرائم بھی۔ مثال کے طور پر گھر سے بھاگ جانا، چوری چکاری کرنا، غنڈہ گردی کرنا یا پھر کاہلی اور سستی میں کام چھوڑ دینا وغیرہ۔ غفلت اور تقصیر کے اس رویے کی وجہ سے نوبالغ افراد میں منفی اثرات پنپنے لگتے ہیں اور وہ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا خود پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اکثر غفلت کا یہ رویہ والدین کی نگہداشت میں کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نامناسب تربیت اور خاندانی جھگڑے بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر معاشی طور پر پسماندہ طبقوں کے افراد اپنے آپ کو ڈل کلاس میں الگ تصور کرتے ہیں اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی غیر سماجی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ اپنے ساتھیوں میں مقبول ہو سکیں۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہتے۔ ان کی صحبت میں تبدیلی، ان میں ذمہ داری کا احساس کرانا، ان کا خود پر بھروسہ اور اعتماد قائم کرنا، منفی رویوں کو ختم کرنا اور ان کے اپنے تئیں ذمہ داری کا احساس کرانے سے ان کے ذہن میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ اپنی اس غفلت یا غلطیاں کرنے کی روش کو چھوڑ سکتے ہیں۔

ناجائز یا بے جا حرکات: سن بلوغت کا ابتدائی دور بہت نازک ہوتا ہے اور اکثر افراد سگریٹ اور شراب نوشی یا نشہ آور دواؤں کے طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ کچھ افراد اپنا تناؤ اور الجھنیں کم کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ رجحان ان کی قوت فیصلہ اور خود اعتمادی کو مجروح کرتا ہے۔ سگریٹ نوشی اکثر دوستوں کے دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے اور فرد اپنے گروپ میں ملے رہنے کے لیے اس عادت کو اپنالیتا ہے یا پھر کبھی کبھی نوبالغ اپنے بڑوں کی نقل کرنے کے لیے یا اسکول کے کام کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے

بھی سگریٹ نوشی شروع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان نکلوٹین کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ عادت چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ زیادہ جھگڑالو فطرت کے ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ رہنے کی خواہش ان کو شراب اور نشیلی دواؤں کا تجربہ کرنے پر بھی اُکساتی ہے۔ نشیلی دواؤں کا لگاتار استعمال انسان کی زندگی پر نہایت منفی اثر ڈالتا ہے۔ والدین کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم رشتہ اور دوستوں و بہن بھائیوں کا تعاون دواؤں اور شراب کے غلط استعمال کو روک سکتا ہے۔ ہندوستان میں نئی دہلی میں ایک ادارہ Society for Theatre in Education Programme اسی سمت میں کام کر رہا ہے۔ یہ 13-25 سال کے لوگوں کو نکلوٹین کے ذریعہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نشیلی دواؤں کو کس طرح ”نہ“ کہیں۔ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی ڈرگ کنٹرول پروگرام نے اس کو غیر سرکاری تنظیموں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔

کھانے یا خوردنوش کی بے قاعدگی: نوبالغ لوگوں میں خود پسندی، تصوراتی دنیا میں رہنے کی عادت اور اپنے دوست احباب سے مقابلہ ان کو اکثر ایسے رجحانات کی طرف موڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے تئیں بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور بلاوجہ شکوک و شبہات میں گھر جاتے ہیں۔ بھوکے رہ کر پتلا دبلا ہونے کا رجحان اسی عمل کا عکاس ہے۔ انگریزی میں اس کو Anorexia Nervosa کہا جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس عمر کے لوگ اپنی غذا سے چند چیزیں بالکل ہٹا دیتے ہیں یا پھر صرف دبلا رکھنے والی غذا کھاتے ہیں۔ اس ضمن میں میڈیا کا بھی اہم رول ہے۔ اشتہارات اور پروگراموں میں دبلا پن ایک بہتر معیار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس فیشن کو اپنانے کے لئے نوجوان لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بے قاعدہ عادت Bulimia ہے۔ یہ ترکیب نفس

بارے میں۔

ذریعہ معاش اور کام: زندگی گزارنے کے لیے تلاش معاش اور پیشہ کا انتخاب زندگی کی دوسری اور تیسری دہائی میں انسان کے لیے سب سے اہم کام ہوتے ہیں۔ ملازمت یا نوکری کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ مختلف کاموں میں تناسب رکھنے، سمجھداری اور ایمانداری سے کام کرنے، ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے مقابلے کو جھیلنے اور اپنی اور آجریا مالک (Employee) کی اُمیدوں پر کھرا اُترنے کے لیے انسان کے ذہن میں لگا تار جدوجہد اور تشویش رہتی ہے۔ یہ زمانہ نئی ذمہ داریوں کو نبھانے کا آغاز ہوتا ہے۔ بہر حال معاش و روزگار کی تلاش اور اس سمت میں مثبت اقدام اس عمر کے اہم کام ہیں۔

شادی بیاہ، سلسلہ نسب اور خاندان: شادی کے بعد دونوں افراد کے درمیان ہم آہنگی اور میل جول بنتا ہے۔ یہ باہمی میل جول اور ذہنی ربط اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ کیا دونوں افراد شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے اور سمجھتے تھے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر دونوں ہی لوگ ملازمت پیشہ ہیں تو گھریلو کاموں کے لیے بھی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔

شادی کے ساتھ ساتھ ہی اگر والدین بننے کی ذمہ داری بھی جلدی ہی سر آ پڑے تو ان دونوں افراد کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ اس میں بچے کے لیے پیار اور لگاؤ بھی شامل ہوتا ہے۔ ماں اور باپ کا رول نبھانے کے لیے یا بچوں کے تئیں والدین کا رویہ طے کرنے کے پس پشت بہت سے دوسرے عوامل بھی کارفرما ہوتے ہیں مثلاً خاندان میں پہلے سے موجود بچوں کی تعداد، سماجی تعاون، اور سب سے اہم بات کہ ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کیسی ہے؟ کیا وہ خوش حال اور پرسرت ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں؟

بھی کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں لوگ یا تو قے کے ذریعے یا پھر جلاب کے ذریعے اپنا پیٹ خالی کر لیتے ہیں یا پھر لگا تار بھوکے رہتے ہیں اور اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں۔ بہر حال یہ دونوں ہی بے قاعدگیاں خاص طور سے لڑکیوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ بھی شہری علاقوں میں رہنے والی لڑکیوں میں۔

پختہ عمر اور بڑھاپا (Adulthood and Old Age)

پختہ عمر

ایک پختہ عمر کا جوان شخص وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہو، پختہ ہو، خود اعتماد ہو اور سماج میں اچھے طریقے سے کھل مل گیا ہو۔ ہر فرد میں ان عناصر کی نشوونما یکساں نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو پختگی کی عمر تک پہنچنے میں الگ الگ وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کالج میں اپنی پڑھائی کے دوران ہی کوئی کام بطور پیشہ اپنالیتے ہیں یا پھر شادی کر لیتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے۔ کچھ لوگ شادی کے بعد بھی اور معاشی طور سے خود مختار ہونے پر بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ انسان کا سماجی ذمہ داریاں قبول کرنے کا سماجی پس منظر پر منحصر کرتا ہے۔ کسی بھی سماج میں زندگی کے مختلف ادوار کے لیے (مثلاً شادی بیاہ، افزائش نسل یا نوکری وغیرہ) مختلف وقت طے ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر قوم میں یہ یکساں ہوں لیکن سیانی اور پختہ عمر کا عمل سب جگہ یکساں ہی ہوتا ہے۔

اس عمر کے ابتدائی عرصے میں دو اہم کام ہوتے ہیں۔ ایک تو مکمل اور مستحکم زندگی جینے کے لیے ممکنات کی تلاش اور دوسرا ایک مضبوط ڈھانچے کا قیام۔ ابتدائی عرصہ عمر کی دوسری دہائی ہوتی ہے۔ لڑکپن کے دور کا خاتمہ انحصار سے خود مختاری کی طرف تبدیلی ہے۔ دھیرے دھیرے اس دور میں انسان آئندہ زندگی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور سے اپنی شادی اور ذریعہ معاش کے

لیکن کچھ دن کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ یادداشت کی قوت گھٹتی ہے لیکن فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ عمر کے ہر دور میں انسان کی قابلیت اور صلاحیت یکساں نہیں ہوتی۔ جس طرح دو بچے ایک جیسی عقل و دانش نہیں رکھتے اسی طرح دو بڑے لوگ بھی یکساں عقل و سمجھ کے مالک نہیں ہوتے۔

بڑھاپا یا ضعیفی: بڑھاپا زندگی میں کب شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ پہلے زمانے میں ریٹائرمنٹ کو بڑھاپے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اب جب کہ اوسط عمر بڑھ گئی ہے اور ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو زندگی میں بڑھاپے کی آمد بھی ریٹائرمنٹ کی عمر کی طرح بڑھ رہی ہے۔ ملازمت سے فراغت کے علاوہ بڑھاپے میں انسان کو کچھ اور مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے بیوگی، بیماری یا خاندان میں کسی فرد کی موت۔ آج کل بڑھاپے کا تصور بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ آج کل ایسے لوگ جو زندگی کے ستر سال پورے کر چکے ہیں، وہ بھی پوری طرح چاق و چوبند اور چست دکھائی دیتے ہیں۔ وہ عمر کے اس دور میں بھی اپنی تمام صلاحیتیں برقرار رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے سماج میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک اہم مقام حاصل کرتے ہیں۔ خصوصاً سیاسیات، ادب، تجارت اور سائنس جیسے شعبہ جات میں ہمیں اس عمر کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ ”بڑھاپے میں انسان کی تمام قوت جو اب دے جاتی ہے اور یہ زندگی کا ایک خوفناک تجربہ ہے۔“ یہ مقولہ اب قابل قبول نہیں رہا۔

انسان کی زندگی میں بڑھاپے کا تجربہ بھی سماجی و معاشی حالات، صحت عامہ سے متعلق سہولیات، دوسرے انسانوں کا اپنے تئیں رویہ، سماج کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں اور تعاون سے ہی منسلک ہوتا ہے۔ جوانی کے دور میں خصوصاً ابتدائی دور میں کام بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاندان کی اہمیت ہوتی ہے اور تیسرا نمبر انسان اپنی صحت کو دیتا ہے۔ ہمارا بڑھاپا بھی اسی بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہم

شریک حیات کی موت، طلاق یا پھر بن بیاہی ماں بن جانے کا عمل ایک ایسے خاندانی ڈھانچے کی بنیاد ڈالتا ہے جس میں صرف ایک ہی شخص (خواہ مرد یا عورت) ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ موجودہ دور میں عورتیں باہر نکل کر ملازمت کر رہی ہیں اور یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں ایک بالکل مختلف طرح کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں دونوں والدین گھر سے باہر رہتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانی نظام میں دونوں لوگ اتنے ہی تناؤ کا شکار رہتے ہیں جیسا کہ ایک ہی فرد کی دونوں ذمہ داریاں نبھانے میں ہوتا ہے۔ بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کا اسکول کا کام، بیماری وغیرہ اور گھر اور دفتر پر کام کا بوجھ وغیرہ، یہ سب عوامل اس تناؤ کا سبب ہوتے ہیں۔ لیکن بہر حال عمر کے اس دور میں تمام تر ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے گھر اہونے کے باوجود بھی انسان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اور اپنی نگرانی میں آنے والی نسل کو پروان چڑھا رہا ہے۔

ادھیڑ عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں اور یہ تبدیلیاں عمر کی پختگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بھی ہر ایک میں یکساں یا آفاقی نہیں ہوتیں، نیز ان کی رفتار بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ عموماً ادھیڑ عمر کے لوگ جسمانی اعضاء کے کام کرنے کی قوت میں کمی محسوس کرنا شروع کرتے ہیں جیسے بینائی کا کمزور ہو جانا، سماعت کا کمزور ہو جانا، دھوپ کی چمک یا چمکا چوند سے الرجی ہو جانا یا بال جھڑنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جسم میں ظاہری طور پر بھی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے جھریاں پڑنا، بال سفید ہو جانا، موٹا ہو جانا وغیرہ۔ کیا اس عمر میں انسان کی شعوری صلاحیتیں بھی تبدیلی ہوتی ہیں؟ ایسا یقین کیا جاتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ کچھ قوتوں میں کمی آ جاتی ہے اور کچھ میں نہیں۔ جیسے لمبے عرصے تک یادداشت برقرار نہیں رہتی لیکن کوئی بھی واقعہ کم مدت میں ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص اگر کوئی ٹیلی فون نمبر سنے تو کچھ دیر تک تو اسے یاد رہتا ہے

مالی حالات میں کمی افراد میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیتی ہیں اور وہ مزید اپنے بچوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کی طرف توجہ دیں اور ان کی دیکھ رکھ کریں۔ ہندوستانی تہذیب میں بزرگوں کا اپنے بچوں پر انحصار ایک قدرتی عمل مانا جاتا ہے۔ درحقیقت ایشیائی ممالک میں لوگ اپنی اولاد کی تربیت اس اُمید سے کرتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گی۔ بزرگوں کو تحفظ کا احساس دلانا اور ان کو یہ محسوس کرانا کہ آپ ان سے وابستہ ہیں اور ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، انتہائی ضروری امر ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بوڑھا ہونا ہے۔

سرگرمی 4.5:

لوگوں کو تین زمروں میں بانٹ کر ان سے بات چیت کیجئے۔ 20 سے 35 سال عمر والے۔ 35 سے 60 سال عمر والے، اور 60 سال سے زیادہ عمر والے۔ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کیجئے۔ مثلاً

- a ان کی زندگی میں اہم عبوری دور اور تبدیلیاں کب کب واقع ہوئیں؟
b ان تبدیلیوں نے ان کی زندگی کو کیسے متاثر کیا؟
ہر زمرے سے ملنے والے جوابات کا تقابلی مطالعہ کیجئے۔

یہ ٹھیک ہے کہ اکثر اوقات بزرگی کے آخری ایام میں موت واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہماری زندگی کی ایسی حقیقت ہے کہ یہ عمر کے کسی بھی دور میں واقع ہو سکتی ہے۔ بچوں اور جوان لوگوں کی موت کو زیادہ اندوہناک مانا جاتا ہے۔ نسبت بہت ضعیف لوگوں کے۔ بچوں اور جوان لوگوں میں موت اکثر حادثاتی ہوتی ہے لیکن بزرگوں میں یہ لگاتار لمبی بیماری کا نتیجہ ہوتی ہے۔
زوجین میں سے کسی ایک کی موت بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔

اپنے کام میں کتنے موثر تھے اور ہمارے رشتے ہمارے خاندان کے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ جوانی کے دور میں ہم دوست احباب میں کتنا مقبول تھے اور ہماری صحت کیسی تھی نیز یہ کہ ہم شعوری طور پر کتنے چاق و چوبند تھے۔

ریٹائرمنٹ: پیشہ وارانہ زندگی سے رخصت یعنی ریٹائرمنٹ انسانی زندگی کا خاص اور اہم پہلو ہے۔ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کو بالکل منفی انداز میں قبول کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ مطمئن اور پراعتماد زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب کہ کچھ لوگ اس دور کو بالکل مثبت انداز سے قبول کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ذوق کی تسکین کا ذریعہ بنا لیتے ہیں یعنی جن کاموں کو کرنے کا شوق تھا اور جوانی میں نہیں کر سکے اب وہ شوق پورے کرنے کا وقت مل رہا ہے۔ اس دور میں انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ عموماً جو لوگ ذہن کے دریچے کھلے رکھتے ہیں اور نئے مشاہدات و تجربات میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے خود کو سماج کے مطابق ڈھال لیتے۔

اس عمر میں خاندانی ڈھانچے میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور خاندان میں فرد کا رول بدل جاتا ہے۔ اب اسے والدین کے بجائے دادا۔ دادی کا رول نبھانا پڑتا ہے۔ بچے اکثر اپنی دلچسپیوں اور کاموں میں اُلجھے ہوتے ہیں، اپنی خاندانی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور کبھی کبھی الگ گھر بھی بسا لیتے ہیں۔ ایسے میں اکثر بوڑھے لوگ معاشی طور سے اپنے بچوں پر ہی منحصر ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے ادھر ادھر الگ گھر بسالینے سے بزرگوں میں اکیلے پن اور اُلجھن کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی ایک ساتھی کا انتقال ہو جانا یا جسمانی بیماری یا اکیلا پن وغیرہ سے رنج و ملال کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اولاد، ان کے بچے اور اپنے دوست احباب کا تعاون ان کو زندگی کی طرف راغب کرتے ہیں۔

موت: بزرگی کے ایام میں قوت کی کمی، صحت میں گراؤ اور

اس طرح آپ نے اس باب میں پڑھا کہ کس طرح انسانی ارتقاء مختلف عناصر سے اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کس طرح اس کو متاثر کرتے ہیں۔

جو انسان زندہ رہ جاتا ہے وہ بری طرح غم و پریشانی اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اکثر مالی پریشانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور صحت و تندرستی سے متعلق مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات و تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے زیادہ دن زندہ رہتی ہیں اور اسی لئے وہ چاہتی ہیں کہ اپنی عمر سے بڑے مردوں سے شادی کریں۔ ایسے موقعوں پر بچوں اور دوستوں کا تعاون انسان کو اپنے ساتھی کی موت سے پہنچنے والے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔

کلیدی اصلاحات

غفوانِ شباب، مظاہرِ پرستی، انسیت، مرکزیت، قطعیت، استخراجی یا قیاسی سوچ، نشوونما، ارتقاء، خود پرستی، تکمیل یا چٹنگی کا فرضی احساس، بلوغت، محرکاتی نشوونما، اشیاء کی موجودگی، طریق عمل، دورانِ حمل، غیر قطع عمل، بنیادی جنسی خصوصیات، ثانوی جنسی خصوصیات، اور حسی حرکاتی۔

مختلف اقوام میں موت کا تصور مختلف شکل میں ہے جیسے ہمارے ملک میں گونڈ قبیلے کے لوگ مانتے ہیں کہ موت جادو ٹونے اور شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے وہ ردِ عمل کے طور پر غصہ دکھاتے ہیں جبکہ مدعا سکر کے تانا لانا قبیلے کے لوگ موت کو قدرتی عمل مانتے ہیں اور بہت پرسکون انداز سے اس پر ردِ عمل کرتے ہیں۔

خلاصہ

- دورانِ حمل نشوونما کے کئی دور ہوتے ہیں، ایک جرثومہ، دوسرے کچا حمل، اور تیسرے پختہ بچہ۔ اس دوران یہ نشوونما ماں کی غذائی عادتوں سے متاثر ہوتی ہے۔ ماں کے ذریعہ لی گئی دوائیں اور ماں کی بیماری کا بھی بچہ پر اثر ہوتا ہے۔
- بچے کی محرکاتی نشوونما سیکھنے کی عادت اور چٹنگی پر منحصر کرتی ہے۔ یہ عمل بچے میں Cephalocaudal Trend یا تصوراتی رجحان کے بعد شروع ہوتا ہے۔
- سماج میں بچے کی تربیت سے متعلق رائج رسوم و طریقے اس کے والدین سے انسیت اور لگاؤ کو متاثر کرتے ہیں۔
- Piaget کی تھیوری کے مطابق بچے میں دماغی یا شعوری نشوونما تب سے شروع ہوتی ہے جب وہ چیزوں کو پہچاننے اور انہیں سمجھنے لگتا ہے۔ نشوونما کے دوران ایک غیر قطع رویہ بہت سے عناصر کے مل کر کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔
- عمر کے ایک دور میں بچہ کے اندر قطعیت کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ زیادہ فیصلہ کن اور منطقی سوچ کا ہے۔

- کول برگ کے مطابق اخلاقی اقدار کی تین سطحیں ہیں جو عمر کے ادوار سے متعلق ہیں اور بچے کی شعوری نشوونما سے متاثر ہوتی ہیں۔
- سن بلوغت کے آغاز پر تیز جسمانی نشوونما جسم میں ثانوی جنسی عوامل کو کارفرما کرتی ہے۔ اور افزائش نسل یا تولیدی عمل کو بھی فعال بناتی ہے Erikson کے مطابق اس دور میں سب سے بڑا چیلنج اپنی شخصیت کی پہچان کرنا ہوتا ہے۔
- بالغ عمر میں انسان کی شخصیت میں استحکام آتا ہے۔ اس دور کی اہم تبدیلیوں میں خاندانی رشتوں میں بدلاؤ، ازدواجی زندگی کا توازن، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ وغیرہ شامل ہیں۔
- پختہ یا پکی عمر میں جسم میں ظاہری تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی یادداشت اور کام کرنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے لیکن کچھ لوگ عمر کے اس دور میں بھی چاق و چوبند اور چست رہتے ہیں۔

نظر ثانی کے لئے سوالات

1. نشوونما کیا ہے؟ یہ کس طرح ظاہری جسمانی فروغ اور بلوغت سے مختلف ہے؟
2. حیاطہ حیات کے تناظر میں نشوونما کا کیا رول ہے؟ بیان کیجئے۔
3. نشوونما یا ارتقاء کے کیا کام ہیں؟ اپنے جواب کو دلائل سے واضح کیجئے۔
4. ”بچے کا ماحول اس کی نشوونما میں اہم رول ادا کرتا ہے۔“ اپنے جواب کو دلائل سے واضح کیجئے۔
5. سماجی اور تہذیبی عناصر کس طرح نشوونما پر اثر ڈالتے ہیں؟
6. بچے کی نشوونما کے دوران ہونے والی وقوفی تبدیلیوں کو بیان کیجئے۔
7. بچپن میں بننے والے پیار محبت کے رشتے زندگی میں دیرپا اثر رکھتے ہیں۔ یہ بات اپنی روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھائیے۔
8. سن بلوغت کیا ہے؟ خودی یا خود پرستی کا تصور بیان کیجئے؟
9. غفوان شباب میں دوستوں کا ساتھ کس طرح انسان کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے؟ اپنے جواب میں دلیل کے طور پر کوئی مثال دیجئے۔
10. پختہ عمر میں داخل ہونے پر نوجوانوں کو کس قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا ہوتا ہے؟

1. اپنے دو تین سال کے تجربات کی بنیاد پر جواب دیں؟ کیا کبھی آپ کے والدین سے آپ کی جھڑپ ہوئی ہے؟ کون سی اہم مشکلیں آپ کو درپیش تھیں؟ آپ نے کیسے ان مسائل کو حل کیا؟ اور کس کا تعاون آپ کو حاصل تھا؟ اپنی فہرست کو اپنے ساتھیوں کی فہرست میں ملا کر موازنہ کیجئے کہ کیا ان میں مماثلت ہے؟ کیا اب آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے۔
2. غیر قطعی رجحان والے چھوٹے بچے کے نقطہ نظر سے دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلنے کے لیے ایک تحریر بنائیے۔ اور اسی طرح کی تحریر ایک بالغ عمر کے فرد کے لیے بنائیے۔ اب دیکھئے کس طرح دو الگ الگ مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے کہ آپ کے دوست کا رول کس طرح مختلف تھا۔

© NCERT
not to be republished